

سُنْنَةِ مَطْهَرَةٍ

اور  
آدابِ مُبَاشِرَت

تَلَفِيف  
عَلَمِيَّا طَالِعِينَ إِلَيْنَا بِرَبِّيْنَا

مُجَاهِدُ اخْرَى صَدِيقٍ

مُحَمَّدُ شَبَّابِي



## معزز قارئین توجہ فرمائیں

- **کتاب و سنت ڈاٹ کام** پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب ... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- **مُجْلِسُ التَّحْقِيقَاتِ الْإِسْلَامِيَّةِ** کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- **دعوتی مقاصد** کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

### تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے  
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈ نگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس  
پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

# سُلْطَنِ مُحَمَّد اور آدَابٌ مُبَاشِرٌ

تألیف

علَامَ ناصر الدِّين البانی رحمۃ اللہ علیہ



مُحَمَّد أخْرَصْ صَدِيق

مکتبہ الہام





عَدْنَة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب	سُلْطَنِ مُظْفَرٍ	اور آدابِ مباشرت
تأليف	عَلَامَةِ ناصر الدِّين البانِي رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ	
ترجمة	مُحْمَّد رَخْتَر صَدِيق	
ناشر	مُجْبِر دِرْ وَ حَمْدَة	
سرور خطاطي	حافظ نجم محمود	
اشاعت	جوں 2005ء	
قيمة		

مکتبہ کتبہ

## مکتبہ اسلامیہ

لَاہور با مقابل رحمان مارکیٹ غزیٰ نگر سڑیت اردو بازار فون: 042-7244973

بیرون امین پور بازار کوتوالی روڈ فون: 041-2631204

# فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین
40	نکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو؟	5	عرض مترجم
41	شادی سے اگلے دن کیا کرے؟	8	تفہیم
42	گھر میں غسل خانہ بنانا واجب ہے	13	مقدمہ طبع اول
43	میاں بیوی اپنے راز و سروں کو بیان نہ کریں	20	بیوی کے ساتھ لطف و مہربانی
44	ولیمہ کرنا واجب ہے	21	بیوی کے سر (پیشائی) پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنا
45	ولیسہ اور سنت طریقہ	22	میاں بیوی کا اکٹھنے نماز پڑھنا
47	گوشت کے بغیر بھی ولیمہ جائز ہے	24	ہم بستری کے وقت کیا کہے؟
	صاحب ثبوت لوگوں سے مدد اور ولیمہ	24	جماع کیسے کرے؟
47	کی دعوت	26	تحمید و در
48	دعوت و لیسہ میں فقط امیر وں کو بلانا حرام ہے	29	دوبارہ جماع کا ارادہ ہو تو وضو کرے
48	دعوت میں حاضر ہونا واجب ہے	29	غسل افضل ہے
48	ولیسہ میں حاضر ہو اگر چروزہ دار ہو	29	میاں بیوی کا اکٹھنے غسل کرنا
49	دعوت دینے والے کے کہنے پر روزہ افطار کرنا	31	جنبی سونے سے قبل وضو کرے
50	نقلي روزہ کی قضا واجب نہیں	32	ذکورہ وضو کا حکم
51	اللہ کی نافرمانی پر مشتمل دعوت میں نہ جائے	33	جنبی کا وضو کے بد لے تمیم کرنا
	دعوت میں حاضر ہونے والے کیلئے کیا	33	سونے سے پہلے غسل افضل ہے
54	مستحب ہے؟	34	حافظہ عورت سے جماع حرام ہے
	اللہ کے نام کے علاوہ مبارکباد جاہلیت کا	35	حافظہ سے جماع کرنے کا کفارہ
60	کام ہے	36	حافظہ عورت سے کہاں تک فائدہ اٹھا سکتا ہے؟
60	دہن کا مہمانوں کی خدمت کرنا	37	عورت کے پاک ہونیکے بعد جماع کب جائز ہے؟
61	دف بجا کر اشعار وغیرہ پڑھنا	37	عزل کا جواز
64	شریعت کی مخالفت سے نہیں کا حکم	39	عزل نہ کرنا بہتر ہے

## فہرست

4

صفہ نمبر	مضامین	صفہ نمبر	مضامین
73	معنی کی انواعی	64	تصاویر لکھنا
76	عورتوں کے لیے سونے کا استعمال	67	دیواروں کو پردوں اور قلیوں سے جانا
77	بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم	70	بھنوں کے بال آکھڑنا
81	کچھ میاں بیوی کی خدمت میں	70	ناخنوں کو لبا کرنا اور نسل پاش لگانا
85	عورت پر خاوندی کی خدمت واجب ہے	71	دارجی منڈانا



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## عرض مترجم

میں یقیناً اسے اپنی خوش بختی تصور کرتا ہوں کہ مجدد اسلام محدث نبیل علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”آداب الزفاف فی السنۃ المطہرۃ“ کا اردو ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ علامہ موصوف نے دیگر محدثین کرام کی طرح حدیث رسول اللہ ﷺ کو اور ہذا بچھونا بنایا۔ جب سے انہوں نے مسلک حقہ قبول کیا تب سے ان کو ایک ہی فکر تھی کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتاب و سنت کی ترویج میں کیسے صرف ہو؟ اسی شوق کے پیش نظر جب انہوں نے خود ساختہ مذہبی حد بندیوں اور تقیدی جمود کا قفل توڑ کر تحقیق کے وسیع تراورز ریز میدان میں قدم رکھا تو انتہائی مختصر عرصہ میں وہ آسان علم پر چودھویں کا چاند بن کر چکنے لگے، جس کی ضیا پاشیوں سے پورا عالم اسلام فیض یاب ہونے لگا۔ کتاب و سنت پر محنت کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان کے شامل حال رہی حتیٰ کہ وہ ہر غیر متعصب عالم، فقیہ، محدث اور عام آدمی کے دل میں گھر کرتے گئے اور علماء کے ذاتی مکتبات اور دیگر لا بصری یا ان کی تصنیفات کے بغیر ادھوری نظر آنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ (آمین)

یہ کتاب جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، انہوں نے اپنے ایک دوست کی شادی کے موقع پر تحریر فرمائی ہے۔ اس میں انہوں نے وقت کی قلت کے باعث فقط ان سائل پر قلم اٹھایا ہے جو سہاگ رات سے قبل اور بعد میں پیش آمدہ ہیں، اسی طرح مبادرت کے آداب کا تذکرہ بھی اس کتاب کا حصہ ہے۔ ان کی یہ کوشش اس بنا پر بہت خوش آئند ہے کہ انہوں نے ایک ایسے موضوع پر قلم اٹھا کر لوگوں کے لیے کتاب و سنت کی رہنمائی واضح کرنے کی کوشش کی ہے جس پر لاتعداد مغرب الاعلاق کتابیجے، رسائل و جرائد اور مضمایں زیر گردش ہیں۔ اگر آپ لا ہور کے فٹ پاٹھوں پر بکنے والی کتب کا جائزہ لیں تو یہ انداز دلگانا مشکل نہیں ہوگا کہ کوک شاستر، گھرب شاستر اور اس طرح کی بے شمار کتب انتہائی

خوش اور بے ہودہ مواد پر مبنی ہیں۔ جن میں بازاری زبان استعمال کرتے ہوئے سفلی جذبات کو قوتی سکیں پہنچانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ ایسے مواد کو پڑھ کر ہمارے نوجوان بتاہی کی ایسی دلدل میں اترتے جا رہے ہیں جس سے نکنا بہت مشکل ہے۔ ان حالات میں شیخ موصوف آفرین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس نازک موضوع پر ایسی پاکیزہ اور اعلیٰ معلومات بہم پہنچائی ہیں جن کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام اور رسول رحمت ﷺ کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے محبوب ترین الفاظ ہیں۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی انتہائی مفید ہے کہ شادی کرنے والا ہر نوجوان اس سے مناسب رہنمائی لے سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ایسے مسائل کے متعلق سوال کرتے ہوئے عموماً جھجک محسوس کرتے ہیں۔

جب مجھے بھائی محمد سرور عاصم صاحب مدیر مکتبہ اسلامیہ نے اس کتاب کو اردو قالب میں ڈھالنے کا حکم دیا تو میری خوشی کی انتہائی رہی کیونکہ میں خود اس کا ترجمہ کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ میں نے جب مذکورہ غرض سے اس کا جائزہ لیا تو حسب توقع یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ یہ کتاب ہر شادی کرنے والے کے لیے مشعل راہ ہے اور اسے ہمارے اردو و ان بھائیوں کے ہاتھوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ میں محترم سرور صاحب کا شکر یہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وساطت سے یہ کتاب ترجمہ و طباعت کے مراحل سے گزری ہے۔

اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ عرب کے معاشرے اور ہمارے رہن سہن میں بہت سافرق ہے اس لیے میں نے ترجمہ میں مندرجہ ذیل امور کو سامنے رکھا ہے۔

❸ جہاں پر میں نے ضرورت محسوس کی ترجمہ کی بجائے مفہوم کا سہارا لیا۔

❹ حاشیہ میں موجود طویل بحثوں کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ کتاب کا جنم کمر رہے۔

❺ وہ علمی بحثیں جن کا تعلق عام لوگوں سے نہیں ہے میں نے ان کو ذکر نہ کرنا ہی بہتر سمجھا ہے۔

❻ عورتوں کے لیے حلقة دار (گولائی والا زیور) شیخ الابی جعفر بن جعفرؑ کی سمجھتے جبکہ جمہور علماء اس کو جائز کہتے ہیں۔ اس مسئلہ میں شیخ جعفرؑ نے طویل بحث کی ہے جس کا

- ذکر میں نے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اس میں اعتراضات اور جوابات علمی انداز سے ذکر کیے گئے ہیں۔ جن کا عام لوگوں کو شاید کوئی خاص فائدہ نہ ہو۔
- 5** شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کے مختلف حالات نقل کیے ہیں۔ میں نے فقط مشہرو و معروف کتب کا ذکر، مناسب سمجھا ہے تاکہ طوالت سے بچا جائے۔
- 6** کچھ مقامات پر میں نے اپنی طرف سے مشکل الفاظ کی تشریح کی ہے تاکہ ہمارے اردو جانے والے بھائی کوئی مشکل محسوس نہ کریں اور اس کی وضاحت حاشیہ میں لفظ (مترجم) لکھ کر کرداری گئی ہے۔ عبارت کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے بعض مقامات پر متن کے اندر بھی بریکٹ لگا کر کچھ الفاظ کے معانی ذکر کیے گئے ہیں۔
- 7** حالات شیخ الہائی رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کردہ ہیں جو اسی طرح ہی منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میں قارئین کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب میں موجود کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور مصنف، مترجم اور ناشر کے لیے خلوص دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ (لین)

مُحَمَّدُ أَخْرَصُ صَدِيقٌ



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## تقدیم

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرُورِ أَنفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

”بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے ہی بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم اپنے نفسوں اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبد بحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقًّا تُقَاتَهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [۱۰۲: ۳/آل عمران]

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈر، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز رفت نہ ہونا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔“

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَعْضَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [۱۰۵: ۳/آل اسراء]

”اے لوگو! اپنے رب سے ڈرتے رہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی (جان) میں سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلادیں، اور اللہ سے ڈرتے رہ جس کا واسطہ دیتے ہوں (سوال کرنے کے لیے)، اور ناطق توڑنے سے (بچوں) بے شک اللہ تعالیٰ تم پر غیر ان ہے۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ قَوْلُوكُمْ وَ قَوْلُوا فَوْلَا سَدِينَدَا ۝ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا ۝﴾ [الاحزاب: ۳۳]

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی صاف بات کرو، (اللہ) تمہارے کام بنادے گا، اور تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر گیا۔“

اما بعد!

پیشک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے پیاری ہدایت، محمد ﷺ کی رہنمائی ہے۔ اور سب سے برا کام (دین) میں نئی چیزیں (پیدا کرنا) ہیں، ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں (داخل کرنے والی) ہے۔  
اس کے بعد،

معزز قارئین! آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہماری کتاب ”سنن مطہرہ اور آداب مباشرت“ کا تیراطج ہے۔ ہم اس کو لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے پہلے دونوں طبعات ایک عرصہ پہلے ختم ہو چکے ہیں جبکہ اس کی ماگ میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، دنیا کے مختلف اسلامی ممالک سے اس کتاب میں رغبت کا اعلہا رکیا گیا ہے۔ میں نے اس طبع میں بہت سے فوائد اور احادیث کی تحریک کا اضافہ کر دیا ہے جو پہلے نہیں میں نہیں ہے۔ اس کا اہتمام فقط اس لیے کیا گیا ہے کہ ہر طبع میں قارئین کرام کے لیے کچھ نئے علمی فوائد اور نفع بخش بحث شامل ہو۔ تاکہ لوگ پہلے سے بڑھ کر اس بیک عمل کا اہتمام کر سکیں اور میرے رب کے ہاں میرا ثواب اللہ تعالیٰ کے اس قول کے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مطابق مزید بڑھ سکے اور زیادہ ہو سکے۔

﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ط﴾ [۱۲/۳۶] [یس: ۱۲]

”اور ہم لکھیں گے، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو چیزیں چھوڑا۔“

اور جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس آدمی نے کسی کو رستہ ہدایت کی طرف بلا یا تو اس کے لیے عمل کرنے والے کی طرح ہی اجر ہے، جبکہ ان میں سے کسی کے اجر میں بھی کمی نہیں ہو گی۔“ \*

میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس کتاب کو اپنے مومن بندوں کے لیے نفع بخش بنائے، اور میرے لیے اس کو اس دن کے واسطے ذخیرہ بنائے، جو اعمال کی جزا کا دن ہے، اور اس دن مال اور اولاد کوئی فائدہ نہ دے سکیں گے، مگر یہ کہ کوئی اللہ کے پاس سلیم (عیب سے خالی) دل لے کر آئے۔ **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**.

دمشق صفر ۱۳۸۸ھ

محمد ناصر الدین البانی



\* صحیح مسلم (۲۲/۸) اور مکہم صحیح مسلم امام الموزری، تحقیق ناصر الدین البانی، حدیث نمبر ۱۸۴۰۔

## مُقْتَلَمَةٌ

الله تعالیٰ کی حمد و شنا، اور نبی ﷺ، ان کی اولاد، ان کے صحابہ ان سے محبت کرنے والوں اور ان کی ہدایت کی پیروی کرنے والوں پر درود وسلام کے ساتھ (شروع کر رہا ہوں)

اما بعد!

اس کتاب کی تالیف اور اسے لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کا سبب ہمارے دینی بھائی، محترم استاد عبدالرحمن البانی کی اس خواہش کا احترام ہے، جس کا اظہار انہوں نے اپنی شادی کے موقع پر میرے سامنے کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزئے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس مبارک موقع پر اس کی تالیف کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اپنے خرچ پر اس کتاب کو چھپوا کر شادی کی رات تقریب عروی میں مفت تعمیم کیا جبکہ لوگ ایسی مغلوبوں میں مٹھائیاں اور شریینیاں بانٹتے ہیں جن کا نہ ہی تو اثر باقی رہتا ہے اور نہ ہی وہ خاص فائدہ مند ہوتی ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی دیگر بہت سی نیکیوں میں سے ایک بہترین نیکی اور بہت اچھا طریقہ ہے، لہ ناء اللہ۔

آج مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے کہ وہ ایسے ہی طریقہ کار استعمال کریں، اور ایسے ہی رستوں پر گامزن ہوں۔

جب اس کتاب کا پہلا نسخہ ختم ہوا۔ مختلف شہروں اور علاقوں میں اس سے لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا، تو اکثر بھائیوں نے اسے دوبارہ شائع کرنے کا مشورہ دیا، اور انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ مجھ سے اسکی اشاعت کا مطالبہ کیا۔ میں نے ان کی بات کا ثابت جواب دیا، اور کچھ وقت نکال کر دوسرے طبع میں چند مفید چیزوں کا اضافہ کر دیا جو وقت کی کمی اور جلدی کی وجہ سے پہلے نہیں میں ذکر نہ ہو سکیں۔

میں نے کوشش کی ہے کہ ان ضروری مسائل پر قدر تفصیل کے ساتھ لکھا جائے جن کو موجودہ دور میں یا اس سے یہی بعض لوگوں نے غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ میں نے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اپنی استطاعت کے مطابق ان لوگوں کی غلطیاں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری تمام کوشش دلائل و برائین سے مزین ہے تا کہ کتاب پڑھنے والا ہر معزز قاری دلیل کے ساتھ بات کر سکے۔ اور وہ (اس معاملہ میں) مکمل دینی بصیرت کا حامل ہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں بے بنیاد جھگڑا کرنے والوں اور حق پر چلنے والوں کی قلت کی وجہ سے متاثر ہو جائے۔ کیونکہ موجودہ دور میں سنت پر عمل اہل دین میں بھی اجنبی سا ہوتا جا رہا ہے، مخالفین اور دین سے روکنے والوں کی توبات ہی کیا کریں؟

میں اللہ بتارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، کہ وہ ہم کو اپنے ان قلیل بندوں میں شامل فرمائے جن کے متعلق نبی کریم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”بے شک اسلام اجنبی شروع ہوا اور عنقریب اجنیت کی حالت میں لوٹ جائے گا۔ پس اجنیوں ﴿ کے لیے مبارک باد ہے۔“

میں اس کتاب کے شروع میں علامہ شیخ محبت الدین الخطیب کے دست مبارک سے لکھا ہوا مقدمہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ یہ بے شمار فوائد اور پند و نصائح پر مشتمل ہے اور یہ طبع اولیٰ میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ میری رائے کے مطابق یہ مقدمہ آج کل کی عورتوں کے لئے اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایسی بہترین رہنمائی پر مشتمل ہے کہ شاید ان عورتوں نے اس سے پہلے اتنی بہترین باتیں نہ ہی سنی ہوں اور نہ ہی دیکھی ہوں۔

پس اے اللہ! ہم کو حق بات، حق بنا کر دکھا، اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرماء اور ہمیں باطل باطل بنا کر ہی دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق فرماء بے شک تو بہت زیادہ سنتے والا اور بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے۔

دمشق ۲۵/۱۰/۱۳۷۶ھ

محمد ناصر الدین البانی

● صحیح مسلم، ویکھیے مختصر صحیح مسلم للحدیدری، حدیث نمبر ۲۷، تحقیق البانی۔

● یہاں اجنبی لوگوں سے مراد اہل حق کی قلت اور عدم دستیابی ہے جو غالباً کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ (متترجم)

## طبع اول

بِقَلْمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَبِّ الدِّينِ الْخَطِيبِ

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، خلوقات کے لیے اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کہ ظاہر و باطن میں اس کی اطاعت کی جائے اور درود وسلام ہوں کائنات کے بہترین معلم، محمد ﷺ پر جنمیں نے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی۔ ان کی آل اور ان کے صحابہ پر بھی لاکھوں رحمتیں نازل ہوں۔

اما بعد!

اس بات میں کوئی بھک نہیں کہ اکثر مسلمان بچوں جیسی ذہنیت کے حال بن چکے ہیں، ان کو ہر وہ بات غفلت اور لامبی میں ڈال دیتی ہے جو بچوں کو مشغول کر دیتی ہے اور ہر وہ چیز ان کو خیر و بھلائی، صراط مستقیم، صحیح منج اور اصل ہدف سے دور کر سکتی ہے جس کے ساتھ بچوں کا دل بہلا یا جاسکتا ہے۔

مسلمانوں کی حالت اتنی مصکلہ خیز ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اسلام کی رہنمائی نام نہاد اعتدال پسندی کے پر فریب نعروہ میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شریعت کی تفسیر ان بے فائدہ کاموں، رذیل خواہشات، بے ہودہ باتوں اور بے کار چیزوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کے یہ خود غلام بننے ہوئے ہیں۔

اس حالت میں اگر مسلمان اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں تو وہ جہاں ان کی حقوق کی حفاظت کرے گا (سیدھی راہ پر لگائے گا) وہاں ان کے اعمال، اوقات اور کوششوں میں برکت عطا فرمائے گا۔ وہ ان کو ایسے اسباب قوت اور ایسی میراث عطا کرے گا جس کی بنا پر ان کی کھوئی ہوئی عظمت لوٹ سکے گی اور ان کو دنیا کی حکمرانی نصیب

ہوگی۔

سنت اسلام کی حقیقی میانہ روی میں تلاش دین کی صحیح راہنمائی ہدایت اسلام کے نور سے کامل روشنی کا حصول، اور مذکورہ بیماریوں سے نجات کہ مسلمان جن کے ایک ہزار سال سے بھی زائد عرصہ سے غلام بنے ہوئے ہیں۔ دوامور پر مشتمل ہے۔

۲۱ باعمل علماء کا اخلاص وہ باعمل علماء جو اس امت کے لیے اپنے دین کی تمام وہ سنتیں اور سنہری طریقے ہر لحاظ سے واضح کرنے کی کوشش کریں جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے۔

۲۲ ایسے مسلمانوں کی کثرت جو مذکورہ بیانات کی تردید اپنے عمل سے کرنے کے لیے اپنی جانوں کو ہر وقت تیار رکھیں، تاکہ وہ لوگ جو باقاعدہ درس و تدریس اور تعلیم کے زیر سے آ راستہ نہیں ہیں وہ بھی ان لوگوں سے مکمل استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ بہترین کتابچہ شادی اور ولیمہ وغیرہ کے متعلق نبی ﷺ کی تعلیمات میں ایک Model (نمونہ) کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایسی صحیح سنتوں پر مشتمل ہے جو اس مسئلہ میں دینی تعلیمات کی اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔

شادی بیاہ کے مسئلہ میں مسلمان اسلام کے طریقوں سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ انہوں نے قبل از اسلام جاہلیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ وہ بالکل نئی جاہلیت کے موجود نظر آتے ہیں جس کی بنا پر ایک طبقہ دوسرے طبقہ سے جہنم کی طرف سبقت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اس قدر گمراہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے شادی بیاہ کو ناجائز اخراجات کی بنا پر اتنا مشکل بنا ڈالا ہے کہ یہ عام لوگوں کی طاقت سے باہر نظر آنے لگی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ شادی میں دلچسپی لینا ہی چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ یہ تو اسلام کی ایک سادہ اور آسان سی سنت تھی۔ جب ان لوگوں نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو اس غلطی نے انہیں جاہلیت کے برے اور نقصان دہ رستوں پر ڈال دیا۔

اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا کہ بذات خود مجھے اس کتابچہ کی ترتیب کے لیے مناسب موقع میسر آیا اور میں نے اس کا عنوان بھی ترتیب دے دیا تھا۔ گریہ سعادت ہمارے ایک

## سُنْنَةِ مُحَمَّدٍ أَوْ آدَابُ بَارِثٍ

ایسے بھائی کے حصہ میں آئی جو سنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور ان کا شمار ایسے علمائی صفت میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی احیائے سنت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ہمارے اس بھائی کا نام جن سے ہمارا غائبانہ تعارف ہے۔ ”شیخ ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، نوح نجاتی، البانی“ ہیں۔ جنہوں نے مسلمانوں کے سامنے ”سنۃ مطہرہ اور آداب مباشرت“ کے عنوان سے ایک کتابچہ پیش کیا ہے۔ جو صحیح یا حسن ﴿ ﴾ احادیث سے مزین ہے۔ کاش کہ انہیں کھلا وقت اور اسباب میرا تے کہ وہ ازدواجی زندگی، بہترین گھر کے آداب اور جو کچھ بھی ایک اسلامی خاندان کے متعلق تھا سب ذکر کر دیتے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ پہلی رات کو چاند ایک بار یک شاخ کی مانند ہوتا ہے پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مطلع آسمان کا سفر طے کرتے کرتے کامل ہو جاتا ہے جسے ”بد“ کہتے ہیں۔

جس طرح اس کتابچہ کی تیاری اور اس کا موضوع تلاش کرنے اور مؤلف نے اسے بیان کرنے میں کوئی دیقیقہ فروغ نہ است نہیں کیا ہے اسی طرح اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے موجودہ دور میں پہلا مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں تیار ہوئے کہ وہ اس معاملہ میں مسلمانوں کے لیے نمونہ بنیں گے۔ وہ افراط و تفریط سے بچتے ہوئے بے کار اور بے ہودہ عادات سے دور رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ان دونوں نے جب اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا کہ وہ دونوں ایسے اسلامی اور پاک گھر کی بنیاد پر گھیں جو اسلامی خاندانی نظام کا نمونہ اور جاہلیت کی تقلید، غیر اسلامی رسومات اور بری عادات سے محفوظ ہو۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے مومن اور مجاهد بھائی عبد الرحمن البانی کی مدد فرمائے اور زندگی کے تمام مراحل میں ان کا حامی و ناصر ہوتا کہ اسلامی اصولوں پر عمل پڑا ہونے کی بنا پر ان کی تمام نیک خواہشات پوری ہو سکیں۔

میں اپنی بات کو مسلمان عرب عورتوں کی تاریخ سے ایک مثال کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں جو ہرشادی کرنے والی مسلمان عورت کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں امید کروں گا کہ وہ اس کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے گی تاکہ اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے۔ (۱) قاء (الله)

..... صحیح سکر کے کھنے میں صحیح ۲۱۷ ص ۳۶۸

سُنْنَةِ نَبِيٍّ اور آدَابِ بَارِثَت

فاطمہ بنت امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کی جب شادی ہوئی تو اس کے باپ کی سلطنت کی حدود شام، عراق، حجاز، یمن، ایران، سندھ، قفقاز، قرم، اور اسی طرح ماوراء النهر، نجرا، مصر، سوڈان، لیبیا، تیونس، الجزاير، مغرب الاصحی (مراکش) اندلس وغیرہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ فاطمہ فقط خلیفہ کی بیٹی ہی نہیں بلکہ وہ اسلام کے چار مشہور و معروف خلفاء خالد بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک کی بہن بھی تھی۔

مزید یہ کہ وہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے زیادہ مشہور خلیفہ عمر بن عبد العزیز کی بیوی ہیں۔ یہ عورت خلیفہ کی بیٹی، چار خلفاء کی بہن اور امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز کی بیوی ہے۔ جب اس نے اپنے باپ کے گھر سے اپنے خاوند کے گھر کی طرف رخت سفر باندھا تو دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ زیور، ہیرے، جواہرات، میں لدی ہوئی تھی اور یہ اس عظیم خزانہ کی تھا مالک تھی، اس کے زیور سے ہی ماریہ نامی عورت کے دو کانے بنائے گئے تھے جو تاریخ میں مشہور ہیں۔ مختلف شعراء نے بھی اپنی شاعری میں کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان دو کانوں میں سے ہر کان ایک خزانے کے برابر تھا۔

اس وضاحت کے بعد یہ کہنا فضول سامع معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ کو اتنی نعمتیں میرتھیں جو اس وقت کسی عورت کو بھی حاصل نہیں تھیں۔ اگر وہ اپنے خاوند کے گھر میں اسی طرح زندگی گزارتی جس طرح اپنے باپ کے گھر میں رہ رہی تھی تو اطراف عالم سے تمام نعمتیں اس کے دامن میں سست آتیں۔ لازمی بات ہے کہ ہر روز اسے انواع اقسام کے بہترین اور مہنگے کھانے میرا آتے۔ اسے ہر وہ نعمت حاصل رہتی جس سے بھی نوع انسان واقف تھے کیونکہ وہ اس کی استطاعت رکھتی تھی۔

اگر میں لوگوں میں اس بات کا اعلان کروں کہ عیش و عشرت پر بتی پر تکلف زندگی حقیقت میں بے کار اور صحت کے لیے نقصان دہ ہے وہ صحت و عافیت جس سے میانہ روی اختیار کرنے والے لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ اور مزید یہ کہ پر عیش زندگی، غریب اور فاقہ کش لوگوں کے دل میں نفرت حسد اور کینہ کو جنم دیتی ہے۔

یاد رکھیں کہ زندگی کتنی ہی پر آسائش اور سہولیات سے مزین کیوں نہ ہو وہ عام محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عادات سے مناسبت ضرور کھتی ہے۔ وہ لوگ جو ہر وقت نعمتوں کی اعلیٰ اقسام سے استفادہ کرتے ہیں، وہ بھی اس وقت فاقہ سے دوچار ہو جاتے ہیں جب ان کا نفس اس سے بڑی نعمت کی خواہش کرتا ہے، اور وہ اس کے حصول میں ناکام رہتے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں میانہ روی اختیار کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے جو کچھ پیچھے ہے، وہ جب چاہتے ہیں اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ انہوں نے فقط اتنا سا کام کیا ہے کہ زندگی کی انہائی اعلیٰ سہولیات اور خدا کو رہ سوچ سے کنارہ کشی کا ذہن بنارکھا ہے۔ تاکہ وہ اپنی خواہشات پر غالب رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ نفسانی خواہشات کے غلام بن کر رہ جائیں۔ اسی لیے تو خلیفہ عظم عمر بن عبد العزیز نے اس وقت اپنے گھر کا خرچ چند رہم تجویز کیا جب وہ بہت بڑی سلطنت کے حکمران تھے۔ ان کے اس فیصلہ پر ان کی بیوی بھی مکمل رضامند ہو گئی، وہ بیوی جو خلیفہ کی بیٹی اور چار خلفا کی بہن تھی۔ وہ اس فقیرانہ زندگی پر بہت خوش تھی کیونکہ اس نے قناعت اور میانہ دوستی کا میثماڈا لئے چکلہ لیا تھا اور یہی حقیقتی لذت اس کی پسند بن گئی۔ اس نے اس نعمت کو دولت اور بے کار و بے فائدہ زندگی پر ترجیح دی جس سے وہ گزشتہ ایام میں خوب واقف تھی۔ جب اس کے خاوند نے اس سے بچگانہ ذہن ترک کرنے کا مطالبہ کیا اور حکم دیا کہ وہ ہبہ و لعب اور حکیم کو دکا سامان اپنے گھر سے نکال دے؛ جس کے ساتھ وہ اپنے کان، گردن، بال اور بازو و زینی کیے ہوئے ہے جو نہ ہی انسان کو موتا کرتا ہے اور نہ بھوک میں کام آسکتا ہے اور اگر اس کو بیج دیا جائے تو ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کا پیٹ پالا جا سکتا ہے تو اس نے فوراً خاوند کی آواز پر بلیک کہا اور اپنے زیور، ہیرے، جواہرات اور موتویوں کے بوجھ سے راحت حاصل کر لی جو وہ باب کے گھر سے لے کر آئی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ بہت المال کو ہبہ کر دیا۔

جب امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز نے اپنی بیوی اور اولاد کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑ ا تو بہت المال کا گھر ان آیا۔ اور قاطمہ عَلِيٌّ کو کہنے لگا: اے میری مالکہ! آپ کا تمام سامان، زیور، ہیرے جواہرات میرے پاس اسی طرح امامت پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس دن سے لے کر آج تک اس کی حفاظت کی ہے۔ میں آپ سے اجازت طلب

کرنے آیا ہوں کہ اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ اس نے جواب دیا: ”میں نے تو یہ مال امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق بیت المال کو ہبہ کر دیا تھا۔“ پھر کہنے لگیں: ”میں ایسی عورت نہیں ہوں کہ زندگی میں تو ان کی اطاعت کروں اور ان کے مرنے کے بعد ان کی نافرمانی کرو۔“

اس نے وراشت میں ملنے والا کروڑوں کامال لینے سے انکار کر دیا حالانکہ وہ اس وقت کوڑی کوڑی کی محتاج تھی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ آج ہم بھی کئی برس گزر جانے کے بعد اس کے شرف و مرتبہ اور اس کے اوپنے درجات کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اسے جنت میں انتہائی اعلیٰ مقام فصیب فرمائے۔ آمین۔

یاد رکھو! خوشحالی اور خوش بختی یہ ہے کہ انسان ہر چیز کے اندر میانہ روی پر گامزن رہے۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ کیسا ہی کیوں نہ ہو جب لوگ اس کی عادت ڈال لیتے ہیں تو انتہائی سکون محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت میں آزاد انسان وہی ہے جو ہر بے فائدہ اور غیر ضروری چیزوں سے آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ اسلام اور انسانیت کے اندر اسے ہی حقیقی غثی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔

۷۱۳ھ، ۱۹۵۲ء  
عذی انجپ،

محبت الدین الخطیب



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنی حکم کتاب میں فرمایا:

وَمَنْ أَيْمَأْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنَ الْفَسِيلَمْ أَزْوَاجًا تَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّؤَدَّةً وَرَحْمَةً طَهِّ [اروم: ۲۰]

”اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویاں تم ہی میں سے پیدا کیں اس لیے کہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان الفت اور محبت رکھی۔“

اور درود وسلام ہوں۔ محمد ﷺ کی ذات گرامی پر جن سے مندرجہ ذیل حدیث وارد ہے۔

”زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو میں تمہاری کثرت کی وجہ سے (دیگر) انبیا کے مقابل فخر کروں گا۔“

اب بعد (اس کے بعد)

بے شک شادی کرنے والا جب اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کرے تو اسلام نے اس کے لیے کچھ آداب ذکر کیے ہیں۔ جن سے اکثر لوگ غفلت برتنے ہیں یا پھر انہیں ان کا علم ہی نہیں ہے۔

یہ بات مجھے پسند آئی کہ میں اپنے ایک قریبی دوست کی شادی کی مناسبت سے ان آداب کو ایک بہترین کتابچہ کی شکل میں ذکر کروں، تاکہ اس کی روشنی میں میرے اس بھائی اور دیگر مسلمانوں کے لیے سید المرسلین ﷺ کی اس شریعت پر عمل پیرا ہونا آسان ہو سکے جو ان پر کائنات کے پروردگار نے نازل فرمائی ہے۔ میں نے اس کتاب کے آخر میں بعض ایسے امور پر تنبیہ بھی کی ہے، جن کا ارتکاب آج کل شادی کرنے والے اکثر لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو منافع بخش بنائے، اور اس کوشش کو اپنے لیے خالص کر لے بے شک وہ نیکی کی توفیق دینے والا اور انتہائی مہربان ہے۔

شیخ حنفی اور ائمہ ہاشمی

یاد رہے کہ (مباشرت) کے آداب تو بہت زیادہ ہیں، مگر اس عجلت میں ہم فقط ایسے آداب کا تذکرہ مناسب سمجھتے ہیں جو محمد رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں۔ سند کے اعتبار سے ان کے انکار اور صحبت کے اعتبار سے ان میں شک کا معمولی سا شایعہ بھی نہیں ہے۔ میری یہ کوشش فقط اس لیے ہے کہ (شادی کرنے والا) پوری بصیرت اور کمل یقین کے ساتھ ان تعلیمات پر عمل کر سکے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گھوہوں کا اتباع سنت کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا افتتاح کرنے کی ہنا پر وہ (ہمارے بھائی) کی پوری زندگی با سعادت بنائے اور اس کو اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد مبارک میں بیان فرمائے ہیں:

هُرَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيَّاتِنَا فُرَةً أَغْيِنْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقْيِنْ

[۲۵/الفرقان: ۷۳]

اور جو یہ دعا کرتے ہیں: ”اے ہمارے پروردگار! ہمیں اسکی بیویاں اور اولاد عطا فرمائو ہماری آنکھوں کی خندک ہوا ورنہ میں پرہیز گاروں کا امام بناؤ۔“

یہ بات سلم ہے کہ اچھا انجام فقط پرہیز گاروں کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هُنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظَلَالٍ وَّ عُيُونٍ۝ وَ قَوَاعِدَ مِمَّا يَشْتَهِيُونَ۝ ۚ كُلُّا

وَ اشْرَبُوا هَيْنَا إِيمَانًا كُتُمْ تَعَمَّلُونَ۝ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۝ ۚ

”بے شک پرہیز گاروں، چشمیں اور ان میزوں میں ہوں گے جو وہ چاہیں گے (کہا جائے گا) دل بھر کے کھاؤ اور پیو، اس چیز کے بد لے جو تم عمل کیا کرتے تھے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہی سلوک

کرتے ہیں۔“ [۷۷/المرسلات: ۳۳-۳۴]

آئندہ سطور میں آداب (مباشرت) ملاحظہ فرمائیں۔

**ا:** بیوی کے ساتھ لطف و مہربانی اور حسن سلوک

آدمی کے لیے مستحب ہے کہ جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کے ساتھ حسن

شیعیت کی نظر میں پسندیدہ عمل۔ (ترجم)

سلوک اور مہربانی سے پیش آئے، مثلاً اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرے۔ اسماء بنہت پیزید سکن فرماتی ہیں:

”میں نے عائشہؓ کو بھی کریمؓ کے لیے تیار (آرائش) کیا اور پیغام بھیجا کہ آپؓ آکر ان کو دیکھ لیں۔ آپؓ تشریف لائے اور عائشہؓ فیضان کے پہلو میں بیٹھ گئے، آپؓ کو دودھ کا ایک بڑا پیالہ جو شیش کیا گیا۔ آپؓ کے پیالے خود پیا، اور پھر عائشہؓ فیضان کی طرف بوجادیا، مگر انہوں نے شرم سے سر جھکایا۔ میں نے ان کو ڈاٹا اور کہا: ”نبیؓ کے ہاتھ سے پیالہ پکڑ لو، جس پر انہوں نے پیالہ پکڑ لیا اور تھوڑا سا دودھ پیا۔ پھر نبیؓ نے عائشہؓ فیضان کو کہا: ”اپنی بہن کو دے دو۔“ اسماءؓ کہتی ہیں میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسولؓ! بلکہ آپؓ پکڑیں اور پہلے خود پیش پھر مجھے دیں۔ آپؓ نے پیالہ پکڑ لیا، اس میں سے کچھ دودھ پیا اور باقی مجھے واپس کر دیا۔ وہ کہتی ہیں: میں بیٹھ گئی، اور پیالے کو گھانا شروع کیا تاکہ میں اس مقام پر اپنے ہونٹ رکھ سکوں جہاں پر نبیؓ نے اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر پیا تھا۔ پھر نبیؓ نے میرے ساتھ موجود دیگر خواتین کو کہا: ”تم بھی پی لو“ وہ عرض کرنے لگیں۔ ہمیں طلب نہیں ہے۔ نبیؓ نے فرمایا: ”تم جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو۔“

۲: بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کے لپے دعا کرنا

دولہا کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پہلے اس کے سر کے اگلے حصہ پر ہاتھ رکھئے اللہ تعالیٰ کا نام لے (بِسْمِ اللّٰہِ کَبَرْ) اور برکت کی دعا کرئے اور نبی ﷺ کا مندرجہ ذیل فرمان پڑھئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

"تم میں سے کوئی جب کسی عورت سے شادی (ہم بستری) کرے، یا

مند احمد: ۷/۲- مند حیدری: ۵۰۸، ۵۰۳، ۵۰۲، ۳۳۸- اس کی سند قوی ہے۔ تاریخ اس محان: ۲۸۲۔

غلام خریدے تو اس کی پیشانی سے پکڑئے، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے اور برکت کی دعا کرے۔

یہ الفاظ کہے:

((اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرٌ مَا جَبِلْتَهَا عَلَيْهِ وَ أَغُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرًّا مَا جَبِلْتَهَا عَلَيْهِ)).

”اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلانی کا سوال کرتا ہوں اور اس بھلانی کا جس پر تو نے اس کو پیدا کیا، اور اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اس شر سے جس پر تو نے اسے پیدا کیا۔“

اور جب کوئی اونٹ خریدے تو اس کی کہان کی چوٹی سے پکڑ کر مذکورہ الفاظ کہے۔

### ۳: میاں بیوی کا اکٹھے نماز پڑھنا

میاں بیوی دونوں کے لیے منتخب ہے کہ وہ اکٹھے دور کعت نماز ادا کریں کیونکہ یہ سلف صالحین سے منقول ہے۔ اس مسئلہ میں دو اثر (دلائل) ثابت ہیں۔

**پطا اثر:** ابی سعید جو کہ ابی اسید کے غلام ہیں۔ کہتے ہیں:

میں نے غلامی کی حالت میں شادی کی، میں نے صحابہ کرام ﷺ کی جماعت کو دعوت دی جن میں ابن مسعود ابوذر اور حذیفہ رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ جماعت کروانے کے لیے آگے ہوئے تو صحابے نے انہیں کہا: تمہرو۔ وہ کہنے لگے: کیا واقعی (تمہروں)؟ صحابے نے کہا: ہاں، (ابی سعید) کہتے ہیں: انہوں نے مجھے آگے کر دیا حالانکہ میں غلام تھا۔ انہوں نے مجھے سکھلایا اور کہا: جب تیرے پاس تیری الہی آئے تو اس کے

۱: یہاں پیشانی سے مراد پیشانی کے بال پکڑنا ہے۔

۲: ابو داؤد: ۳۳۶۔ ابن ماجہ: ۵۹۲۔ یعنی: ۷/۱۲۷۔ اس کی سند بہترین ہے۔ احکام کبریٰ کے اندر عبد الحق ابو شبلی نے اسے صحیح کہا ہے۔

۳: اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کہنا چاہتے تھے کہ میزان کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نماز کی امامت کروانا ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے: ”کوئی آدمی کسی کے گھر میں یا اس کی سلطنت میں امامت نہ کروائے۔“ صحیح مسلم۔ صحیح ابو داؤد۔ صحیح ابو حیان۔ صحیح ابو داؤد: ۵۹۳۔

ساتھ دور کعت ادا کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے اس داخل ہونے والی کی بھلائی اور اسکے شرے حفظہ رہنے کا سوال کرنا۔ اس کے بعد تو جان اور تیری گھر والی جانے۔ ॥

**دوسرा اثر:** حضرت شفیع بن عاصیؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جس کا نام ابوحریز ہے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: میں نے نوجوان کنواری لڑکی سے شادی کی ہے اور مجھے ذرہ کہ وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: بے شک محبت اللہ کی طرف سے اور ناچاقی شیطان کی طرف سے ہے۔ کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ ان اشیاء کو تمہارے لیے ناپسندیدہ ہنادے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے۔ جب وہ تیرے پاس آئے تو اسے حکم دینا کہ وہ تمہارے پیچھے دور کعت نماز ادا کرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ قصہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اسے کہا تو اس طرح کہہ:

((اللَّهُمَّ بارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّهِ أَجْمَعُ

بَيْتَنَا مَا جَمَعْتُ بِخَيْرٍ وَفَرِيقٌ يَبْيَنُنَا إِذَا فَرَقْتَ إِلَى خَيْرٍ.))

”اے اللہ! میرے لیے میرے گھر والوں میں اور ان کے لیے مجھے میں برکت عطا فرم۔ اے اللہ! ہم دونوں کو تو اپنی طرف سے بھلائی پر جمع فرم، اور

ہم میں جب تو جدائی ڈالے تو بھلائی کے لیے ہی ڈالنا۔“ ॥

\* مصنف ابن ابی شیبہ: ۷/۵۰۔ وجہ۔ اور (۲/۱۲، ۳۳/۲)۔ مصنف عبدالرازاق: ۶/۱۹۱۔ اس کی سند ابی سعیدؑ صحیح ہے اور یہ مستور الحال ہے۔ میں نے اس کا ذکر فقط اصحابی تیری محبہ اور ثقات ابن حبان میں دیکھا ہے۔

\* مصنف عبدالرازاق: ۶/۱۹۱۔ ۱۰۳۶۱۔ ۱۰۳۶۰۔ اس کی سند صحیح ہے۔ طبرانی: ۳/۲۱ (اوسط + صغير) میں یہ قصہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے واسطے منقول ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب یہوی خاوند کے پاس آئے تو خاوند آگے کھڑا ہوا اور اس کی عورت اس کے پیچھے کھڑی ہو۔ وہ دور کعت نماز ادا کریں۔ اور آدمی یہ الفاظ کہہ: ”اے اللہ! میرے لیے میرے اہل میں، اور میرے اہل کے لیے مجھ میں برکت عطا فرم، اے اللہ! میرے اہل کو مجھ سے اور مجھ کو میرے اہل سے رزق (اولاد) عطا فرم، اے اللہ! ہم دونوں کو اپنی طرف سے بھلائی پر جمع فرم اور ہم میں کسی بھلائی کے لیے ہی جدائی ڈالنا۔“ اور کہا کہ اس کو عطا سے حسین کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔

میں کہتا ہوں: ”ان کا قصد یہ ہے کہ مرفوع روایت نہیں کیا۔ کیونکہ عطا بن سائب کو اختلاط ہو گیا تھا۔ جادا نے یہ قصہ عطا کے اختلاط سے قبل روایت کیا۔ اسی لیے تو ہم نے اس کو متن میں ذکر کر دیا، یہ ابن مسعود کی دوسری روایت ہے۔ یہ قصہ صحیح عبد اللہ بن مسعود کی ایک اور روایت سے بھی ملا ہے اور یہ (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ☆☆)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ۳: ہم بستری کے وقت کیا کہے؟

جب وہ اپنی بیوی سے، ہم بستری کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے:

((بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ جَنِّبَا الشَّيْطَانَ، وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزْقَنَا))

”اللہ کے نام کے ساتھ۔ اے اللہ! ہمیں شیطان سے حفاظ فرم اور جو تو ہمیں رزق (ولاد) دے اس کو بھی شیطان سے بچا۔“

نبی ﷺ نے فرمایا:

”اگر (اس دوران) اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اولاد عطا کر دے تو اس کو شیطان

کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔“ ■

## ۵: جماع کیسے کرے؟

اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی سے (مقام پیدائش) میں جماع کرے،

☆☆ گزشتہ سے پوتہ (حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ اس کو مندرجہ ذیل ائمہ نے روایت کیا ہے۔ اخبار صحابہ میں ابو قیم نے /۱۵۶۔ میرے اپنی منڈ میں ابن عساکر نے تاریخ میں (۲۰۹-۲۷۱) اور عبد الرزاق نے ابن حجر نقش سے یہ قصہ کھواں طرح نقل کیا ہے۔ مجھے بیان کیا گیا کہ سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے شادی کی۔ جب وہ اس کے پاس جانے لگے تو مگر کی دیواروں پر پردے لٹکتے دیکھ کر دروازے میں عق کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا: میں نہیں جانتا کہ تمہارا مگر مخصوص افراد کے داخلہ کے لیے ہے، یا پھر عباس پہاڑی پر خلی ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم! میں اس وقت تک مگر میں داخل نہیں ہوں گا جب تک تم ان پردوں کو پہاڑ نہ دو۔ جب انہوں نے پردے چھاڑے تو وہ داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا: اللہ تعالیٰ پر رحم کرے کیا تو میری فرمانبردار ہے؟ اس نے جواب دیا: آپ اس جگہ آ کر بیٹھنے ہیں جہاں بیٹھنے والے کی اطاعت ہی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا: بے شک مجھے رسول اللہ ﷺ نے کہا ہے: ”جب تو شادی کرے تو تم دونوں (عماں بیوی) اللہ کی اطاعت پر ہی اکٹھ رہو۔“ سو تم کھڑی ہو جاؤ تاکہ ہم دور کعت نماز پڑھ لیں جب تو مجھے دعا کرتے ہوئے سے تو آمین کہنا۔ پھر عماں بیوی نے دور کعت نماز ادا کی۔ سلمان فاری رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس رات گزاری۔ جب صبح ہوئی تو ان کے ساتھی آئے۔ ان میں سے ایک آدمی آپ کو ایک کونے میں لے گیا، اور کہا تم نے اپنی بیوی کو کیسا پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے من پھیر لیا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے کہی سوال کیا، جب آپ رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھی تو کہا: ”اللہ تمہارے حال پر رحم کرے۔ تم اس نیز کے متعلق سوال کرتے ہو جو دیواروں اور پردوں میں چھپائی گئی تھی۔ آدمی کو چاہیے کہ جو اس کے لیے ظاہر ہو اس کے متعلق سوال کرے۔“

■ صحیح بخاری: ۹/۷۱۸۔ نبأ کے علاوہ دیگر سنن کے مؤلفین نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق:

طبرانی: ۱۹۳/۱۵۱۔ ارواء الغلب: ۲۰۱۲۔

محکم دلائل و براہین سے مذین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہ سُنْ مِنْ حَلَّةٍ امْ لَفَاظٍ بِهَا شَرَتْ ۝  
 چا ہے وہ کسی سمت سے ہو، آگے سے یا پیچے سے ہو اس دعویٰ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أُنْيٰ شِتْتُمْ﴾ ﴿۱﴾

”تمہاری عورتیں، تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہواؤ۔“

یعنی جس طرح تم چاہتے ہو، آگے سے یا پیچے سے (اگلے حصہ میں) جماع کرو، اس کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہیں۔ یہاں فقط دو کا ذکر ہی کافی ہے۔

اول: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”یہودی یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پیچھے ہو کر اس کے اگلے حصہ میں جماع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اس پر یہ آیت اتری:

﴿نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أُنْيٰ شِتْتُمْ﴾ ”تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہواؤ۔“ اس پر

نبی ﷺ نے فرمایا: ”آگے سے یا پیچے سے مگر یہ کہ (مقام پیدائش) میں۔“ ﴿۲﴾

دوم: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

” مدینہ میں انصار یوں کا ایک قبیلہ آباد تھا جو کہ بتوں کی پوچا کرتے تھے۔

ان کے ساتھ اہل کتاب (یہودی) بھی رہتے تھے، یہودی اپنے آپ کو اہل

کتاب انصاری قبیلہ سے علم کی بنیاد پر افضل خیال کرتے تھے۔ انصاری

قبیلہ کے لوگ بہت ساری چیزوں میں ان کی پیروی کرتے تھے۔ اہل

کتاب عورت کو (چٹ لٹا کر) اس سے تعلق قائم کرتے تھے۔ یہ عورت کے

لیے زیادہ ستر پوشی کا باعث تھا۔ اس بات میں بھی انصار یہودیوں کی پیروی

کرتے تھے۔ قریشی لوگ اپنی عورت سے تعلق کے لیے طرح طرح کے

طریقے استعمال کرتے تھے اور جماع کی لذت حاصل کرتے تھے۔ وہ

عورتوں کے آگے سے، پیچے سے ہو کر اور چٹ لٹا کر تعلق قائم کرتے۔ جب

﴿۱﴾ /ابقرہ: ۲۲۳] ﴿۲﴾ صحیح بخاری: ۸/۱۵۶۔ مسلم: ۳/۱۵۶۔ امام نسائی نے اسے عشرۃ النساء میں ذکر کیا ہے (۲/۱۷۶)۔ تہیی: ۷/۱۹۵۔ ابن عساکر: ۸/۲۹۳۔

مہاجر صحابہ مدینہ آئے تو ان میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے شادی کر لی۔ اس نے (اپنے رواج کے مطابق) اس سے جماع کرنا چاہا تو اس عورت نے انکار کر دیا۔ اور کہا: ہمارے ساتھ تو فقط ایک ہی طریقہ پر تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ تم بھی ایسے ہی کرو ورنہ مجھ سے دور ہو۔ وہ عورت اسی پر اصرار کرتی رہی اور معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ یہ بات نبی ﷺ تک جا پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس امر پر: ﴿إِنَّسًا ذُو حُرْثَكُمْ صَفَّاتُهُ حَرْثُكُمْ أَنَّى شِتَّمْ زَهْرَةً يَعْنَى آگے پیچے یا چلتا کر فائدہ اٹھاؤ مگر اس شرط کے ساتھ کہ جماع بچہ پیدا ہونے کی جگہ میں ہو۔﴾

## ۶: تحریک مذہب

شوہر پر حرام ہے کہ وہ اپنی بیوی کی دبر (پاخانہ کی جگہ) میں جماع کرے اس کی دلیل سابقہ آیت کا مفہوم ہے کہ ﴿إِنَّسًا ذُو حُرْثَكُمْ صَفَّاتُهُ حَرْثُكُمْ أَنَّى شِتَّمْ زَهْرَةً﴾ اسی طرح مذکورہ احادیث اور دیگر کئی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔

**پھری حدیث:** حضرت ام سلمہ ؓ فرماتی ہیں:

”جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے ان کی عورتوں سے شادیاں رچائیں۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر اٹالنا کر (یا ان کے ہاتھز میں یا گھنٹوں پر رکھوا کر) جماع کرتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصاری عورت کے ساتھ اس طرح (جماع) کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھنے سے پہلے ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ

ابوداؤد: ۱/۳۷۲۔ حاکم: ۲/۱۹۵، ۱۹۶۔ یعنی: ۲۷۹، ۲۸۰۔ غریب الحدیث للخطابی: ۲/۳۔ اس کی سند حسن ہے۔ امام حاکم نے اس کو امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح کہا ہے۔ اور امام ذہبی نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ سعید بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: ہم لوڑیاں خریدتے ہیں اور ان سے درمیں جماع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: ”اف کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟“ میں کہتا ہوں: ”اس کی سند صحیح ہے اور ابن عمر سے صریح نص ہے کہ عورتوں سے دبر میں جماع کرنا حرام ہے اور انہوں نے اس کا شدید انکار کیا ہے۔“

## سُلْطَنَةُ الْمُحَمَّدِ اور کتابتہ نہاد

27

آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن سوال کرنے سے شرمناکی رہی۔ پھر آپ ﷺ سے ام سلمہ (رضی اللہ عنہا) نے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی ﴿نَسَاؤْكُمْ حَرْثَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أُنَيْ شِتْتُمْ﴾ اور نبی ﷺ نے فرمایا: ”نبیں مگر ایک ہی جگہ (مقام پیدائش) میں ہو۔“ \*

**دوسری حدیث:** حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے:

”حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف لائے، اور فرمایا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! میں ہلاک ہو گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا؟“ وہ عرض کرنے لگے: ”آج رات میں نے اپنا کجا وہ اٹا کر دیا۔“ آپ ﷺ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا تو رسول اللہ ﷺ کی طرف یہ آیت وحی کروی گئی: ﴿نَسَاؤْكُمْ حَرْثَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أُنَيْ شِتْتُمْ﴾ آپ ﷺ نے فرمایا: ”آگے سے آؤ یا پیچے سے آؤ مگر برادر حیض والی سے بچو۔“ \*

**تیسرا حدیث:** حضرت خزیمہ بن ثابت (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے:

”ایک آدمی نے عورتوں سے دبر میں جماع کرنے کے متعلق سوال کیا۔ یا یہ کہ کوئی مرد اپنی عورت سے دبر میں جماع کرے تو کیسا ہے؟ نبی ﷺ نے کہا: جائز ہے، جب وہ آدمی جانے کے لیے مژا تو آپ ﷺ نے اس کو بلا یا پھر بلا نے کا حکم دیا، اس کو بلا یا گیا، آپ ﷺ نے پوچھا: تو نے کیا کہا؟ کس جگہ (شرماگاہ) کے متعلق تو نے پوچھا؟ تو نے عورت کی مقام پیدائش یا دبر کے متعلق سوال کیا؟ کیا (تیرا مطلب یہ ہے) پیچے سے عورت کی قبل

\* مسند احمد: ۶/۳۰۵-۳۱۰، ترمذی: ۳/۲۵۔ امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ابن الی حاتم نے اسے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ ۱/۳۹، ۱/۴۵، ۱/۷۶۔ اس کی مسند امام سلمہ کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

۲ عورت کے پیچے کھڑے ہو کر (مقام پیدائش) میں جماع کرنے سے کہا ہے۔

۳ امام نسائی نے اس کو اپنی کتاب ”الحضرۃ“ میں نقل کیا ہے۔ ۲/۲۷، ۲/۱۶۲، ۱/۳۹۔ ابن الی حاتم: ۱/۱۵۶۔ اس کی مسند حسن۔ امام ترمذی نے بھی اس کو حسن کہا ہے۔

(مقام پیدائش) میں؟ یہ تو جائز ہے اور اگر یہ کہ پیچھے سے عورت کی در بیش؟ تو یہ ناجائز ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرمناتے، سو تم عورتوں کی دبر میں (جماع) نہ کرو۔” ﴿

### چوتھی حدیث:

”اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف دیکھنا بھی گوارنیں کرے گا جو اپنی عورت کی دبر میں جماع کرے۔“ ﴿

### پانچویں حدیث:

”وہ آدمی طعون ہے جو عورتوں کی محاش یعنی (دبر) میں جماع کرے۔“ ﴿

### چھٹی حدیث:

”جس آدمی نے حائض عورت یا عورت کی دبر میں جماع کیا، یا کاہن (نجومی) کی باتوں کی تصدیق کی۔ تو اس نے محمد ﷺ پر نازل ہونے والی بحلائی (قرآن) کا انکار کر دیا۔“ ﴿

۱۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ ۲۔ ۳۶۰ ہجری: ۷/۲۔ ۳۵۵ ہجری: ۱/۲۔ ۳۵۵ ہجری: ۱/۲۔ داری: ۱۳۵۔ طحاوی: ۲/۲۔ خطاوی: ۲/۲۔ اسے غریب الحدیث میں لقل کیا ہے۔ اس کی سند سمجھ ہے۔ اس کاہن حبان نے صحیح کہا ہے۔ (۱۲۹۹) امام اہن حزم نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ ۱۰۔ ۷۔ حافظ ابن حجر نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ فتح البری: ۸/۱۵۔

۲۔ الحشر للنسائی: ۲/۲، ۲۷۸، ۲۷۹۔ ترمذی: ۱/۱۔ اہن حبان: ۱۳۰۲۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس کو حسن کہا ہے۔ اہن راویہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اہن جارود نے اس کو ایک اور سند سے روایت کیا ہے۔ (۳۲۳) امام احمد نے اس کو ابوبہریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ منhad: ۲/۲۔ ۲۷۲۔

۳۔ ابن عدی: ۲/۱۱۔ ای حدیث عقبہ بن عامر کی سند سے ضروری ہے۔ اور اس کی سند حسن ہے۔ یہ روایت اہن دھب عن ابن حمیة ہے۔ ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کی شاہد ہے۔ وہیںے الیاد و دیوان: ۲۱۶۲۔ اور منہد امام احمد: ۲/۲۔ ۳۲۲۔ ۲۷۹

۴۔ امام نسائی کے علاوہ اصحاب سنن نے اسے روایت کیا ہے۔ امام نسائی نے اسے ”الحضرۃ“ میں لقل کیا ہے۔ ۲۸۔ منhad: ۲/۲۔ ۳۰۸۔ ۳۲۶۔ اس کی سند سمجھ ہے۔ اہن حبان نے اس کے متعلق پچھلے گیلہ انہوں نے اسے کفر سے تعبیر کیا۔ اہن کو نسائی نے روایت کیا (لق: ۷/۲)۔ اباد: ۲/۶۔ ۵۶۔ اس کی سند سمجھ ہے۔ امام ذہبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ہمیں بے شمار دلائل سے یہ یقین ہو چکا ہے کہ عورتوں سے دبر میں جماع کرنے سے نبی ﷺ نے شرعاً نجائز فرمایا ہے اور ہم کو پختہ یقین ہے کہ یہ حرام ہے۔“ سیر اعلام الدلائل: ۹/۱۔ ۱/۱۔

## ۷: دوبارہ جماع کا ارادہ ہوتا وضو کرے

جب آدمی اپنی عورت کے ساتھ جائز طریقہ سے ہم بستری کرے اور اس کا ارادہ دوبارہ جماع کرنے کا ہوتا نبی ﷺ کے مندرجہ ذیل فرمان کے پیش نظر وضو کرے۔

”جب تم میں سے کوئی گروائی سے ہم بستری کرے۔ پھر دوبارہ جماع کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ دو دفعہ کے درمیان (وضو کرے) ایک روایت میں ہے کہ نماز کی طرح وضو کرے یہ دوبارہ جماع کے لیے زیادہ نیچط (تیاری، چستی) کا باعث ہے۔“ \*

## ۸: غسل افضل ہے

اگر وہ دوبارہ جماع کرنے سے قبل غسل کر لے تو یہ افضل ہے۔ ابی رافع روایت کرتے ہیں:

”ایک رات نبی ﷺ اپنی مختلف عورتوں کے پاس گئے آپ نے ہر عورت کے پاس علیحدہ غسل کیا۔ وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ نے ایک ہی دفعہ غسل کیوں نہ کر لیا؟ آپ ﷺ نے جواب دیا: یہ (غسل) زیادہ اچھا اور زیادہ پا کیزہ ہے۔“ \*

## ۹: میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا

میاں بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک ہی جگہ پر اکٹھے غسل کریں اگرچہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں۔ اس مسئلہ میں مندرجہ ذیل احادیث بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہیں۔

**اول:** حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں:

”میں اور رسول اللہ ﷺ اکٹھے ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔“

برتن کے اندر ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے گلراہ ہے ہوتے۔ آپ جلدی

\* مجمع مسلم: ۱/۱۷۱۔ مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/۵۱۔ مسند احمد: ۳/۲۸۔ مجمع سنن ابی داؤد: ۲۶۶۔

\* عثرۃ النساء ابی داؤد: ۱/۷۹۔ طبرانی: ۱/۹۶۔ الطہ لابی قیم: ۲/۱۱۲۔ اس کی سند حسن ہے۔ حافظ نے اسے مغبوط قرار دیا ہے۔

# شنبھلہ اور آنپہ بہارث

30

فرماتے تو میں عرض کرتی۔ میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے۔ میرے لیے بھی چھوڑ دیجیے۔ اور وہ فرماتی ہیں: ”ہم دونوں جنہی ہوتے تھے۔“

**۵۹۶:** معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم اپنے ستر کن سے چھپائیں اور کن سے کھولیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی بیوی اور اپنی لوٹدی کے علاوہ اپنی شرمنگاہ کی حفاظت کرو۔“ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا: اگر بعض لوگ بعض

**۵:** صحیح بخاری۔ صحیحسلم۔ صحیح ابو عوانہ۔ یہ لفظ سلم کے ہیں۔ امام بخاری محدث نے اس حدیث پر یہ عنوان قائم کیا ہے۔ ”آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ خسل کرنا۔“

حافظ ابن حجر محدث فرماتے ہیں: ”اداؤدی نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمنگاہ دیکھ سکتے ہیں۔“ فتح الباری: /۱/ ۲۹۰۔ سلمان بن موسیٰ سے جب اس آدمی کے متعلق سوال ہوا جو اپنی بیوی کی شرمنگاہ دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا: میں نے بھی سوال عطاہ سے کیا تو انہوں نے کہا: میں نے بھی سوال حضرت عائشہؓ سے پوچھا تو انہوں نے بھی حدیث پیان کی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہؓ کا وہ قول کہ ”میں نے بھی رسول اللہ ﷺ کے پرودہ کی جگہ کوئی نہیں دیکھا۔“ ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کی سندیں برکت بن محمد طی ہے۔ جس میں کوئی برکت نہیں۔ یہ جھوٹا ہے اور سن گھرست روایت پیان کرتا تھا۔ اس قول کی مزید و سندیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔

”اخلاق نبی ﷺ“ نامی کتاب کے صفحہ نمبر (۲۵۱) پر ایک اور سند سے یہ اثر معقول ہے مگر اس میں ابو صالح ہے جس کا نام باذام ہے اور وہ ضعیف ہے۔ محمد بن قاسم اسدی کذاب ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ ”جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بتری کا ارادہ کرے تو پرودہ کر لے، اور انہوں کی طرح بے پردنی کا مظاہرہ نہ کرے۔“ این باجہ: /۱/ ۵۹۲۔ اس حدیث کی سند میں احمد بن حکیم ہے جو کہ ضعیف ہے۔

ای طرح ”الاحیاء، عشرۃ النساء، الغواہ والمشکاة، ابن الجیشی، مصنف عبد الرزاق، طبرانی وغیرہ میں اسی مفہوم کی احادیث درج ہیں وہ سب کی سب جھوٹی، مکریاتی ضعیف ہیں۔ ایک حدیث میں ہے: ”جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی یا لوٹدی سے جماع کرے تو اس کی شرمنگاہ کو نہ دیکھے ورنہ پچھے انہا ہیدا ہوتا ہے۔“ یہ روایت بھی جھوٹی اور سن گھرست ہے۔

**۶:** ابن عروہ ضبلی کہتے ہیں: ”میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے سارے بدن کو دیکھنا اور جھوٹا جائز ہے حتیٰ کہ شرمنگاہ کو جھوٹا بھی جائز ہے، کیونکہ شرمنگاہ سے ہی تو وہ (بیوی) سے فائدہ اٹھاتا ہے لہذا بقیہ بدن کی طرح شرمنگاہ کو دیکھنا اور جھوٹا بالکل جائز ہے۔“ الکواکب: /۱/ ۲۹۰۔ بھی ذہب امام ماکب بن انس کا ہے اور ابن الجیشی ذہب بھی اسی بات کے قائل تھے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمنگاہ کو دیکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر ابن عروہ نے یہ بھی کہا: ”شرمنگاہ کو دیکھنا کرودے ہے کیونکہ حضرت عائشہؓ کی کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے مقام پر وہ کوئی نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کی کمزوری ان پر واضح نہیں ہو سکی۔“

لوگوں کے ساتھ ہوں۔ (مرد مردوں کے ساتھ ہوں) تو آپ ﷺ نے فرمایا:  
”اگر تو اسکی طاقت رکھتا ہے کہ تیری (شرمگاہ) کو کوئی نہ دیکھے تو کوئی نہ دیکھے۔  
وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: کبھی انسان اکیلا ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کل لوگ اس سے شرم کریں۔“ \*

## 10: جنپی سونے سے قبل وضو کرے

میاں یہوی اگر جنپی ہوں تو ان کو سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ اس مسئلہ میں کئی احادیث وارد ہیں۔

**اول:** حضرت عائشہؓ فیضانہ فرماتی ہیں:

”دنی کریم ﷺ جب حالت جنابت میں کھانا کھاتے یا سونے کا ارادہ کرتے تو مقام پر پڑھ کو دھوتے اور نماز کی طرح وضو فرماتے۔“ ②

**دوسرا:** ابن عمرؓ سے روایت ہے:

”بے شک حضرت عمرؓ نے عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سوکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: دوہاں جب وہ وضو کر لے۔“

اور ایک روایت میں ہے:

”وضو کر اپنی شرمگاہ کو دھوا اور پھر سو جا۔“

اور ایک روایت میں ہے:

• امام نسائیؓ کے علاوہ اس کو دیگر مؤلفین سنن نے روایت کیا ہے۔ امام نسائیؓ نے بھی اسے ”المشرقة“ میں روایت کیا ہے۔ ۶/۱۔ ردیانیؓ نے اسے مند میں ذکر کیا ہے۔ ۲/۲۹، ۲/۱۷۱، ۱/۱۶۹۔ مندرجہ: ۵/۳۲۔  
بنیقی: ۱/۱۹۹۔ اس کی سند حسن ہے۔ امام ذہبیؓ نے بھی موافقت کی ہے۔ امام نسائیؓ نے اس حدیث کا عنوان کچھ اس طرح بیان کیا۔ ”عورت کا اپنے خاوند کی شرمگاہ کو دیکھنا۔“ امام بخاریؓ نے کچھ اس طرح باب بیان کیا ہے ”جو آدمی خلوت میں نگاہ نہائے، اور اگر پر پڑھ کرے تو پر پڑھ افضل ہے۔“

• صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابو داؤد۔ صحیح سنan البی رداود: ۲۸۱۔

• جنپی سے مراد جس پڑھل واجب ہو۔ (متجم)

”ہاں اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، پھر سوئے، اور جب چاہے غسل کر لے۔“

ایک اور روایت میں ہے۔

”ہاں، اگر وہ چاہے تو وضو کر لے۔“

**سوم:** حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فرشتے تین آدمیوں کے قریب نہیں جاتے۔ کافر کی لاش، اور جس نے زعفران ملی خوبیوں کا ہو، اور جبی آدمی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔“

## ۱۱: اس وضو کا حکم

اگرچہ یہ وضو واجب نہیں مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے پیش نظر سنت مؤکدہ ضرور ہے کیونکہ انہوں نے نبی ﷺ سے پوچھا تھا: ”کیا ہم میں سے کوئی حالت جتابت میں سو سکتا ہے؟“ انہوں نے فرمایا: ”ہاں، اگر وہ چاہے تو وضو کر لے۔“

اس موقف کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مندرجہ ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے: ”نبی ﷺ کبھی سو جایا کرتے تھے حالانکہ وہ جبی ہوتے تھے اور وہ پانی کو چھوٹے تک نہیں تھے ( حتیٰ کہ آپ بیدار ہوتے اور غسل فرماتے )۔“

۱- صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ابن عساکر: ۲/۲۲۳/۱۳۔ دوسرا روایت صحیح ابو داؤد: ۲۷۔ تیسرا روایت صحیح مسلم، ابن عوان، اور سنن تیہیقی: ۱/۲۱۔ آخری روایت صحیح ابن خزیس۔ صحیح ابن حبان۔ تحقیق: ۱۵۶/۲: میں ہے۔ یہ روایت وضو کے واجب نہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک وضو واجب نہیں ہے۔

۲- ابو داؤد: ۲/۱۹۲، ۱۹۳۔ یہ حدیث حسن ہے۔ امام احمد، طحاوی، بن تیمیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ابو داؤد نے اس کی دو سنیدہ نقل کی ہیں اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے یہ بات اگرچہ محل نظر ہے مگر اس کے شواہد موجود ہیں۔ جب کہ تیمیہ نے اس کو ”صحیح“ میں روایت کیا ہے۔ ۱۵۶/۵۔

۳- صحیح ابن حبان: ۲۳۲۔ یہ روایت انہوں نے اپنے شیخ ابن خزیس سے نقل کی ہے ( ان شاء ) ”یعنی اگر وہ چاہے“ کے لفظ بھی صحیح مسلم میں ثابت ہیں یہاں بات کی دلیل ہے کہ وضو واجب نہیں ہے۔

۴- ابن الی شیبہ: ۱/۲۵۔ امام نسائی کے علاوہ اصحاب سنن نے اسے روایت کیا ہے۔ انہوں نے بھی ”الحضرۃ“ میں اس کو روایت کیا ہے۔ ۷۹۔ ۸۰۔ امام طحاوی۔ طلحہ کی، امام احمد اور بنوی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ ( ۱/۱۱ ) ( ۱/۲۳ )۔ مندرجہ ذیل میں ابوجیعی: ۲/۲۲۳/۲۔ صحیح ابو داؤد: ۲۲۳۔

حضرت عائشہؓ سے ہی روایت ہے:

”آپ ﷺ جنابت کی حالت میں رات گزارتے، اتنے میں حضرت بلاں تشریف لاتے، نماز کے لیے اذان کہتے۔ آپ ﷺ کھڑے ہوتے اور غسل فرماتے۔ میں ان کے سر سے پانی گرتا ہوادیکھ رہی ہوتی تھی کہ آپ تشریف لے جاتے، (کچھ دیر بعد) مجھے آپ کی آواز نماز فجر سے نائی دیتی۔ پھر آپ روزہ رکھتے۔“

مطرف کہتے ہیں: میں نے عامر ظیعؑ سے پوچھا: کیا یہ رمضان میں ہوتا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی ایسا ہوتا تھا۔

## ۱۲: جنبی کا وضو کے بد لے تمیم کرنا

میاں بیوی دونوں کے لیے کبھی کبھی تمیم بھی جائز ہے۔ حضرت عائشہؓ سے فرماتی ہیں:

”جب نبی ﷺ حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کرتے اور کبھی تمیم کر لیتے۔“

## ۱۳: سونے سے پہلے غسل افضل ہے

میاں بیوی اگر سونے سے پہلے غسل کر لیں تو یہ افضل ہے۔ عبد اللہ بن قیس کی حدیث میں ہے کہ وہ کہتے ہیں: میں نے عائشہؓ سے پوچھا: نبی ﷺ جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا وہ سونے سے قبل غسل کرتے یا غسل کرنے سے پہلے بھی سو جایا کرتے تھے؟ وہ کہتی ہیں: وہ دونوں طرح ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی آپ غسل کر لیتے پھر

۱۔ این ابی شیبہ: ۲/۱۷۳۔ ۲/۱۷۳ کی سند ہے۔ محدث: ۶/۱۰۱۔ ۲/۲۵۲۔ محدث بیلی: ۲/۲۲۲۔

۲۔ بنیانی: ۱/۳۱۳۔ ۲۰۰۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ ۱/۱۰۔ این شیبہ میں بھی بنیانی کے لیے غسل یا تمیم کی اجازت ہے۔ ۱/۱۰۔ ۲/۲۸۔ حمام بن عمروہ سے مردی ہے۔ ”کہ آپ ﷺ اپنی بیٹی بھنی بیویوں سے ہم بزری کرنے کے بعد تمیم کر لیا کرتے تھے۔“ طرائفی نے اس کو ”اوسط“ میں روایت کیا ہے۔ (۱/۹) اور کہا کہ شام سے نظا اساعلیٰ روایت کرتا ہے میں کہتا ہوں: اساعلیٰ اگرچہ ضعیف ہے مگر اس حدیث کی متابعت موجود ہے۔

۳۴ ﴿لَئِنْ كُلَّتِ الْأَرْضُ بِثَرَاثٍ لَمْ يَنْفَدِ ثَرَاثُهُ﴾

آرام فرماتے اور کبھی کبھی وضو کر لیا کرتے اور سو جاتے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اللہ کا شکر ہے جس نے اس معاملہ میں آسانی رکھی ہے۔“

## ۱۲: حائضہ عورت سے جماع حرام ہے۔

حالت حیض میں عورت کے ساتھ جماع کرنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ طُقْلٌ هُوَذِي لَا يَأْخِرُزُ لِلْمُسَاءِ فِي الْمَحِيضِ لَا لَا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَلَا هُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ ۵۰

”یہ لوگ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ (انہیں) کہہ دیجیے یہ گندگی ہے، حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ، ان کے قریب نہ آؤ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان سے تعلق قائم کرو جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اسی مسئلہ میں کئی احادیث ثابت ہیں۔

**اول:** آپ ﷺ نے فرمایا:

”جس آدمی نے حائضہ کے ساتھ یا کسی عورت کی درب میں جماع کیا۔ یادوں کی کاہن (نجوی) کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ تو اس نے محمد ﷺ پر نازل شدہ (کتاب) کا انکار کر دیا۔“

**۱۳۹:** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں:

”یہودیوں کی کسی عورت کے ایام ماہواری شروع ہو جاتے تو وہ اسے

۱: صحیح مسلم: ۱/۱۷۱۔ ابو یونان: ۱/۲۷۸۔ مسلم: ۲/۲۸۔ ۱۳۹۔

۲: البقرۃ [۲۲۲] ۳: یہ حدیث صحیح ہے۔ اصحاب سنن اور دیگر لوگوں نے اسے روایت کیا ہے۔ اس کے حوالہ جات مسئلہ نمبر ۶ کے تحت گزر چکے ہیں۔

گھر سے نکال دیتے نہ ہی اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ ہی پیتے اور اسے گھر کے اندر اپنے پاس بھی نہ آنے دیتے۔ آپ ﷺ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم اتارا۔

**فَوَيْسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ طَقْلٌ هُوَذِي لَا فَاغْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ؟ ... (الخ)**

نبی ﷺ نے فرمایا: ”ان کو اپنے ساتھ گھروں میں رکھو۔ اور جماع کے علاوہ ان سے ہر طرح کافاً نہ کہا۔“ یہودی کہنے لگے: یہ آدمی (محمد ﷺ) تو چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ چھوڑے جس میں ہماری مخالفت نہ کرے۔ سو اسید بن حضیر اور عباد بن بشیر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے: یہودی ایسے ایسے باتش کر رہے ہیں۔ کیا ہم عورتوں سے حیض کے (دلوں) میں نکاح (جماع) نہ کریں؟۔ آپ ﷺ کا چہرہ تغیر ہو گیا حتیٰ کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ ان دلوں پر آپ ﷺ ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دلوں چلے گئے۔ (ابھی کچھ دور چلے تھے) کہ ان کے سامنے نبی ﷺ کی طرف سے بھیجا ہوا دودھ کا پیالہ آیا۔ جوان کے لیے ہدیہ تھا آپ ﷺ نے ان کے پیچے دودھ بھیجا اور ان کو پلایا، ہمیں یقین ہو گیا آپ ان سے ناراض نہیں ہیں۔ \*

## ۱۵: جو حائضہ سے جماع کرے اس کا کفارہ

وہ آدمی جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور حالت حیض میں ہی بیوی سے جماع کر لیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ تقریباً آدھا جدیہ \* اُنگریزی یا جدیہ کا چوتھائی حصہ صدقہ کرے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے اس آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

- 
- \* صحیح مسلم، صحیح ابو یحیا و سہی، ابو داؤد۔ (۲۵۰)
- ۲) سکھ کا نام۔ (ترجمہ)

”وہ ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرے۔“

**۱۶: حائضہ عورت سے کہاں تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟**  
 اس (خاوند) کے لیے حائضہ عورت کی شرمگاہ کے علاوہ تمام (بدن) سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اس مسئلہ میں کئی احادیث وارد ہیں۔

**اول:** نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”..... جماع کے علاوہ سب کچھ کرو۔“  
**دوم:** حضرت عائشہؓ کہتی ہیں:

”رسول اللہ ﷺ ہم عورتوں کو ماہواری کے ایام میں حکم فرماتے کہ وہ اپنا ازار بندختی کے ساتھ باندھے، اور پھر اس کا خاوند اس کے ساتھ لیئے، اور کبھی وہ کہتیں کہ مباشرت (جماع کے علاوہ) کرے۔“

**ثالث:** نبی ﷺ کی بعض عورتوں سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں:  
 ”بے شک نبی ﷺ حائضہ (بیوی) سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرتے تو اس کی شرمگاہ پر کچڑا اہل دیتے اور پھر جو آپ کا ارادہ ہوتا ہے کرتے۔“

**۴:** سنن کے مؤلفین نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور بیکھیری مجم الکبیر: ۲/۱۳۸۔ ۱/۱۳۸۔ ۲/۱۳۸۔ امام داری اور حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ امام بخاری کی شرط کے مطابق اس کی سند بھی ہے۔ ملنے جو اور انکن قیم وغیرہ نے اس کی موافقت کی ہے جس طرح میں نے صحیح سنن البیوی دادو: ۲۵۶ میں وضاحت کر دی ہے۔ امام احمد سے جب اس آدمی کے بارے میں پوچھا گیا جو حیض کی حالت میں بیوی سے جماع کرتا ہے تو انہوں نے بھی اسی حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ امام شوکانی نے ثلی الاوطار میں ان سلف صاحبین کے نام ذکر کیے ہیں جو اس حدیث پر عمل کے قائل تھے۔ (۲۲۲/۱)۔ میں کہتا ہوں دینار اور نصف دینار کے درمیان میں اختیار شاید آدمی کے محاذی حالات کے اختیار سے ہے۔ **۵:** اس حدیث کی تحریک سنن نسیم فہرست کے تحت گزرنگی ہے۔

**۶:** صحیح بخاری۔ صحیح مسلم۔ صحیح ابو داؤد۔ صحیح البیوی دادو: ۲۶۰۔ اس حدیث میں مباشرت سے مراد گورت کے جسم کا مرد کے جسم کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ لفظ اگرچہ جماع کے معانی میں بھی آتا ہے۔ اور جماع کے علاوہ مباشرت (بوس و کنار) کے معانی میں بھی آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کہاں دوسرا سے معانی (جماع کے علاوہ) ہی مراد ہیں۔ جیسا کہ بت صہیان کریم کہتی ہیں، میں نے عائشؓ کو کہا: آدمی اپنی عورت سے حیض کی حالت میں کہاں تک فائدہ اٹھاسکتا ہے۔ انہوں نے کہا: جماع کے علاوہ ہر چیز اس کے لیے ہے۔ این حد: ۲۸۵/۸۔

**۷:** صحیح ابو داؤد: ۲۶۲۔ اس کی سند امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ اس حدیث کو ابن عبد الحادی نے صحیح کہا ہے اور ابن جرجر نے اس حدیث کو معتبر کہا ہے۔ سنن تیہی: ۱/۲۰۲۔

**۱۷: عورت کے پاک ہونے کے بعد اس سے جماع کب جائز ہے؟**

جب عورت ماہواری کے ایام سے پاک ہو جائے اور اس کا خون رک جائے۔ تو اس سے جماع جائز ہے بشرطیکہ وہ حسل کر لے یا خون کی جگہ کو اچھی طرح دھولے یا دسکر لے۔ ان میں سے کسی بھی چیز کا اگر وہ اہتمام کرتی ہے تو پاک ہو جائے گی۔ اس وقت اس سے جماع جائز ہو گا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ہے جو محفل آیت کریمہ میں گزرائے:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَلَا تُؤْهَنْ مِنْ حَيْثُ أَهْرَكُمُ اللّٰهُ ۖ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ

يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝ ۵۰

”جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

## \* ۱۸: عزل کا جواز \*

**آدی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی عورت سے عزل کرے، اس کی دلیل مندرجہ ذیل**

اہن حرم، حطام اور قاده وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ خون رک جانے کے بعد وہ خون کی جگہ کو اچھی طرح دھولے تو خادع کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ بھی انہوں نے کہا: اگر دسکر لے جب بھی پاک ہو جائے گی۔ مجاہد اور حطام بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جب اس پر پاکی واقع ہو جائے اور وہ پانی سے مفالی حاصل کر لے تو بغیر حسل کے وہ اپنے خادع کے لیے حلال ہے۔ حافظ ابن کثیر رض نے بعض علماء کی یہ بات نقل کی ہے کہ وہ یہ دونی کرتے تھے کہ حسل کے بغیر حاضر عورت پاک نہیں ہو گی۔ تفسیر ابن کثیر: ۱/۲۶۰۔

میں کہاں ہوں کہ اتنا کہا دو ہوئی بالل ہے بنیاد ہے جس طرح کہ آپ نے اس کے خلاف علماء کی رائے ملاحظہ کر لی ہے۔ امام ابوحنیفہ رض کے نزدیک خداوند کا رک جانا بھی پاکی کا باعث ہو گا مگر یہ قول دلیل کے خلاف ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم دلیل کے خلاف کسی کے قول کو ترجیح دیں۔ یاد رکو پاکی کی تین طرح سے حاصل ہو گی، عورت خون کے اثرات دھوڑا لے، دسکر کرے، یا حسل کرے، کیونکہ لفظ طهر (پاکیزگی) کا اطلاق ان تین اشیاء پر ہوتا ہے۔ اہن حرم کہتے ہیں: دشمنوں کی اختلاف کے طہارت ہے، اسی طرح شرم گاہ کو دھولیتا بھی طہارت ہے۔ پورے بدن کا دھوڑا لایا بھی طہارت ہے۔ ان تینوں امور میں سے کسی کے ساتھ بھی طہارت حاصل کی جاسکتی ہے۔

﴿۲/ البقرۃ: ۲۲۳﴾ عزل سے مراد جماع کے دوران انزال کے وقت مرد کا منی باہر گردانیا ہے کہ حمل نہ ہم برے۔ (ترجم)



احادیث ہیں۔

**اول:** حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ہم عزل کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہوتا تھا۔“

ایک اور روایت میں ہے:

”ہم نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں عزل کرتے تھے نبی ﷺ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے ہمیں منع نہیں کیا۔“ ●

**دوسرا:** حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں:

”ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: میری ایک لوٹڑی ہے میں اس سے عزل کرتا ہوں۔ میں وہی کچھ چاہتا ہوں جو آدمی چاہتا ہے۔ یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ عزل، چھوٹا موعدہ (یعنی لڑکی کو زندہ گاڑنے کے متراff) ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”یہودیوں نے جھوٹ بولا ہے، یہودیوں نے جھوٹ بولا ہے، اگر اللہ اس کو پیدا کرنا چاہے تو تجھے کچھ کر سکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔“ ●

**سوم:** حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: ہماری ایک لوٹڑی ہے وہ ہماری خدمت بھی کرتی ہے اور ہمارے درختوں کو پانی بھی دیتی ہے۔ میں اس سے ہم بستری کرتا ہوں لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تو چاہے تو اس سے عزل کر بے شک وہ (پچھہ) آ کر ہی رہے گا جو اللہ نے لکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد سہی شخص آیا اور عرض کرنے لگا: بیکچ لوٹڑی حاملہ ہو جکی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ وہ آ کر ہی رہے گا جسے اللہ تعالیٰ نے

● صحیح بخاری: ۹-۷۵۰۔ صحیح مسلم: ۲۰/۳۔ امام تسانی نے اسے ”المشرقة“ میں روایت کیا ہے۔ (۱/۸۲)۔  
ترفی: ۱۹۲/۲۔

● ابو داؤد: ۲/۲۲۸۔ الحکل للطحاوی: ۲/۲۷۱۔ ترمذ: ۲/۱۹۲۔ من الدرر: ۳/۵۲، ۵۱، ۲۲۔ محدثون: ۵۲، ۵۱، ۲۲۔

تَقْدِيرٍ مِّلْكٍ دِيَاهُ هُوَ

## ۱۹: عزل نہ کرنا بہتر ہے

عزل (اگرچہ جائز) ہے مگر اس کو ترک کرنا کئی وجہات کی بنا پر افضل ہے۔

**اول:** اس میں عورت کے لیے نقصان اور تکلیف ہے کہ اس کو لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر عورت اس بات پر متفق بھی ہوتی بھی عزل مندرجہ ذیل دیگر وجہات کی بنا پر بہتر نہیں ہے۔

**دو:** اس سے نکاح کے بعض مقاصد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً نکاح کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امت محمدی میں اضافہ ہو۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

”زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جتنے والی عورت سے شادی کرو۔

کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر قوموں پر فخر کروں گا۔“

اسی لیے تو نبی ﷺ نے اس کو ”خفیہ قتل“ کا نام دیا ہے جب آپ سے عزل کے متعلق سوال ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”یہ تو خفیہ قتل ہے۔“

اسی بنا پر تو نبی ﷺ نے ابی سعید خدری کی روایت میں یہ اشارہ کر دیا کہ عزل نہ کرنا

صحیح مسلم: ۲۸۰۔ ابو داؤد: ۳۲۹۔ بیہقی: ۲۲۹۔ مسند احمد: ۳۲۰۔ ۲۸۶۔ ۳۱۲۔

**۲:** یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھیے ابو داؤد: ۱۔ بیہقی: ۳۲۰۔ نسائی: ۲/۱۔ امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔ مسند احمد: ۳/۱۵۸۔ بیہقی: ۷/۸۱۔ اس روایت کو ابن حبان نے صحیح کیا ہے۔ اس کی سند صحن ہے۔ اس میں کچھ کلام بھی ہے۔ میں نے اس کو اراءۃ القطبی میں بیان کر دیا ہے۔ (۱۸۱)

**۳:** صحیح مسلم: ۱۱۱۔ طحاوی نے المؤکل میں روایت کیا ہے۔ ۰/۱۱۱۔ ۳۲۱۔ ۳۲۰۔ مسند احمد: ۲/۶۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ بیہقی: ۱/۲۳۱۔ امام شوكافی نے اس حدیث کے متعلق دو ٹوکی کیا ہے کہ سعید بن الجوب اس روایت میں متعدد ہیں مگر یہ ان کی واضح غلطی ہے۔ حیوہ بن شریح اور رجیح بن الجوب سے اس کی متابعت ثابت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اس کی صحت میں کوئی ٹوک نہیں۔ فتح الباری: ۹/۲۵۲۔ اس سے یہ پڑھ چلا ہے کہ عزل کو آپ ﷺ نے پسند نہیں کیا ہے۔ انہیں حرم سے بھی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس کے حرام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ علاوہ ان کا اس بات پر تعاقب کیا اور یہ ثابت کیا کہ عزل حرام نہیں بلکہ ناپسندیدہ ہے۔ صحیح انہیں خریز میں علی بن حجر کی حدیث ہے کہ جب ابن عباس ﷺ سے عزل کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (اس کی سند صحیح ہے) بعض لوگوں نے اس حدیث کو ابی سعید خدری ﷺ کی گزشتہ حدیث کے خلاف کہا ہے مگر حقیقت میں اس انہیں سے کوئی آئندگی نہ ہو تو اس کے جواب میں اسج (اق راش اگلے صفحہ، ۴۰)

## سنت حنفیہ ان کتابت بہشت

بہتر ہے۔ ”رسول اللہ ﷺ کے پاس عزل کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی بھی یہ کیوں کرتا ہے؟“ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا: تم میں سے کوئی نہ کرنے کوئی جان اسی نہیں جو پیدا ہونے والی ہے مگر اس کا خالق اللہ ہے۔ (وہ پیدا کرہی دے گا) ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم (عزل) کرتے رہو گے، تم یہ کرتے رہو گے البتہ تم یہ کرتے رہو گے؟ کوئی اسکی جان نہیں جس نے قیامت تک پیدا ہونا ہے مگر وہ ہو کر رہے گی۔ \*

### ۲۰: نکاح میں میاں اور بیوی کی نیت کیا ہو؟

ان دونوں کو چاہیے کہ وہ نکاح کے ذریعہ گناہ سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنے کی نیت کریں، تاکہ میاں اور بیوی کا تعلق بھی ان کے لیے صدقہ بن گزشتے ہو سے۔ (انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ قتل ہے، کہا تھا کہ ”یہودی جھوٹ بولتے ہیں اگر اللہ نے اس (پچ) کو پیدا کرنا چاہا تو مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے جو گرے دونوں احادیث کا مشترک مفہوم بیان کیا کہ آپ کا یہ کہتا کہ یہ خیر قتل ہے۔ یہ یہودیوں کے قول سے ایک الگ چیز ہے کیونکہ وہ تو اسے زندہ درگور کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اس سے کہیں کم ہے کیونکہ زندہ درگور تو پیدائش کے بعد ہوتا ہے جبکہ عزل میں تو بچے کے وجود کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہری طور پر ایسے مسائل محسوس ہوتے ہیں مگر اس کا حکم خاہر پر نہیں ہے۔ قلخ دادت میں دونوں کے مشترک ہونے سے یہ لطف لا گیا ہے۔ بعض نے کہا: یہ فقط تشییک کے لیے استعمال ہوا ہے پیدا ہونے سے قتل ارادہ قتل کو پیدا ہونے کے بعد قتل سے تشییک دی گئی ہے۔ اہن قسم پہنچنا فرماتے ہیں: یہودیوں نے عزل کو ”زندہ درگور کرنا“ کہا وہ اس دعویٰ میں جھوٹے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزل پچ کی پیدائش سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے کیا جاتا ہے اس کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے اسے خیر قتل کہا گیا کیونکہ قتل کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ [المحدث ۲/۳۸۵]

صحیح مسلم: ۱۵۹، ۱۵۹، ۱۵۹۔ آخر ۱/۸۳۔ حدیث ابن منذہ: ۴/۷۰۔ سلام بخاری نے اس حدیث کو سلمی کی درسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الماری میں یہ اشارہ کیا ہے کہ عزل کو نبی ﷺ نے حباب فتنۃ کے لیے حرام قرآنیں دیا پہلے تاپنڈی کیا ہے۔ کیونکہ لوگ یہ پیدا ہونے کے ذرے عزل کرتے تھے تو جس نے پیدا ہوتا ہے وہ دعویٰ جائے گا، عزل اس کو دکھانی سکتا کیونکہ بھی کسی مرد کا پانی نکل جاتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا اور سبکی پانی پچ کی پیدائش کا سبب بن جاتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا ہے وہ پیدا ہوئی جائے گا۔ آج کے ترقی یافتہ دوڑ میں تو انسان کے لیے لٹکن ہے کہ وہ اپنے مادہ متوجہ کر دکے۔ اس لیے موجودہ دوڑ میں بھی ذکر کوہ دوامور کی بنیاد پر عزل نہ کرنا بہتر ہے۔ ہماری کلام کا خلاصہ: بہر حال یہ ہے کہ اگر کفار کی طرح عزل اس ذہن سے کیا جائے کہ کہیں اولاد کی کثرت نہ ہو کہ ان پر خرچ کہاں سے ہو گا اور ان کی تربیت کون کرے گا؟ وغیرہ تو اس وقت عزل کروہ کی بجائے حرام ہے کیونکہ لوگ اپنی اولاد کو فقیری کے ذرے قتل کر دیتے تھے۔ لیکن اگر عورت بیمار ہو اور کوئی مستند ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ حمل کی وجہ سے اس کا مرض زیادہ ہو جائے گا تو منح حصل ادویات اور عزل وغیرہ دعائیں ہے اور اگر مرض زیادہ ہتھ خطرناک ہو تو مانع حصل طریقہ استعمال کرنا واجب ہے۔

سُلْطَنِيَّةُ الْمُرْكَبِ بِبَارِث

جائے۔ اس بات کی دلیل ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔

”نبی کریم ﷺ کے صحابہ میں سے بعض نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ!

اہل ثروت (مال و دولت والے) تو بہت زیادہ اجر لے گئے۔ وہ ہماری طرح

نمایز میں پڑھتے ہیں اوروزے بھی رکھتے ہیں۔ اور اس کے (ساتھ ساتھ) اپنے

مالوں سے صدقہ بھی کرتے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”کیا اللہ تعالیٰ نے

تمہارے لیے (بعض چیزوں کو) صدقہ نہیں بنایا؟ بے شک ہر تسبیح صدقہ

ہے۔ ہر گیر صدقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم دینا صدقہ

ہے۔ برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تمہارا (بیوی سے ہم بستر ہونا) صدقہ

ہے۔“ صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم میں سے

کوئی جب اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو کیا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے؟

نبی ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ یہی تعلق حرام جگہ پر قائم

کرے تو اس پر گناہ نہیں ہے؟“ صحابہ نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ آپ ﷺ

نے فرمایا: ”اس لیے جب وہ حلال جگہ (بیوی یا الوٹی) کے ساتھ یہ تعلق

قام کرے تو اس کے لیے ثواب ہے۔“ اس کے علاوہ بھی نبی ﷺ نے کئی

چیزوں شارکیں اور انہیں صدقہ کہتے گئے۔ اور آخر میں فرمایا: ”چاشت کی دو

رکعتیں ان سب سے کفایت کر جاتی ہیں۔“ \*

## ۲۱: شادی سے اگلے دن کیا کرے؟

اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ شادی سے اگلے دن اپنے ان عزیزوں کے پاس حاضر ہو جو اس کے گھر شادی میں آئے ہوئے ہیں، ان کو سلام کرے۔ ان کے لیے دعا

\* صحیح مسلم: ۲/۸۲۔ نسائی: ۲/۸۸۔ عشرۃ النساء۔ مسند احمد: ۵/۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹۔ اس حدیث کی سند امام مسلم

کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

امام سیوطی نے ”اذکار الاذکار“ میں فرمایا: اس حدیث سے پوچھتا ہے کہ بیوی سے ہم بستر ہونا بھی صدقہ ہے اگرچہ اس میں نیت نہیں کی جائے۔

میں کہتا ہوں کہ شاید ہر دفعہ تو نہیں مگر عورت سے شادی کے وقت نیت کرنا ضروری ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو سلام کریں اور اس کے لیے برکت کی دعا کریں۔  
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے:

”جب نبی ﷺ نے حضرت زینب بنت جحش سے شادی کی تو آپ نے صحابہ کرام ﷺ کو پیٹ بھر کر روٹی اور گوشت کھایا۔ پھر آپ ﷺ امہات المؤمنین کے پاس تشریف لے گئے، ان کو سلام کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ انہوں نے بھی آپ ﷺ کو سلام کیا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ ﷺ شادی سے اگلے دن یہی عمل کیا کرتے تھے۔“ \*

## ۲۲: گھر میں غسل خانہ بنانا واجب ہے

میاں اور بیوی پر لازم ہے کہ وہ گھر کے اندر غسل خانہ بنائیں۔ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دونوں بازار میں موجود حمام میں (غسل کرنے کے لیے) جائیں بے شک یہ فعل حرام ہے۔ اس کے دلائل مندرج ذیل ہیں۔

اول: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں داخل نہ کرے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں کپڑا باندھ کر داخل ہو اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسے دستخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی گئی ہو۔“ \*

دوسرہ: حضرت امام الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں:

میں حمام سے نکلی تو رسول اللہ ﷺ سے میری ملاقات ہو گئی۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”ام درداء! کہاں سے آ رہی ہو؟“ میں نے عرض کیا: حمام سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری

\* این سعد: ۸/۱۔ امام نسائی نے اسے ”ولید“ میں ذکر کیا ہے۔ ۲/۲۲۔ اس کی سند صحیح ہے۔ الترغیب والترہیب: ۱/۸۹۔ ۱۱۔

\* مأکم: ۲/۲۲۸۔ ترمذی نسائی نے اس کے اور الفاظ اقل کیے ہیں۔ منhadh: ۳/۳۳۹۔ جرجانی: ۱۵۰۔

جان ہے، کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنی ماڈل (والدین۔ خاوند) کے گھر کے علاوہ کپڑے اتارے مگر یہ کہ اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تمام پردوں کو چھاڑ دالا۔” \*

**سوم:** ابی طیح فرماتے ہیں: اہل شام کی عورتیں حضرت عائشہؓ کے پاس آئیں۔ عائشہؓ نے پوچھا: تم کہاں سے ہو؟ ان عورتوں نے عرض کیا: ہم اہل شام میں سے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: شاید تم اس ضلع (علاقہ) سے ہو جہاں عورتیں حمام میں داخل ہوتی ہیں۔ ہم نے کہاں۔ وہ کہنے لگیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے گھر کے علاوہ کہیں کپڑے اتارتی ہو مگر یہ کہ اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان تمام پردوں کو چاک کر دیا۔” \*

**۲۳:** میاں یوی اپنے راز دوسروں کو بیان نہ کریں  
ان دونوں پر حرام ہے کہ وہ آپس کے تعلقات کی باقی اور راز دوسروں کو بیان  
کریں۔ اس سلسلہ میں دواحد بیث پیش خدمت ہیں۔

**اول:** آپ ﷺ کا فرمان ہے:

”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا شخص وہ ہے جو اپنی یوی  
کے پاس آتا ہے اور وہ اس کے پاس آتی ہے پھر ان خیریہ تعلقات کی خبریں  
نشر کرتا ہے۔” \*

**دوم:** اساء بنت زید رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھی تھیں جبکہ دیگر مردا اور عورتیں بھی  
● مدد احمد: ۶/ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ دو لاپی: ۲/ ۱۳۲۔ ● امام نسائی کے علاوہ سنن کے مؤلفین نے اس کو  
روایت کیا ہے۔ سنن داری۔ طحا نسائی۔ مدد احمد: ۲۵۸۲۔ تہم ابن الامری: ۱/ ۱۔ حاکم: ۲/ ۲۸۸۔ یغوثی کی شرح  
الزن: ۳/ ۲۲۶۔ امام ترمذی بالہمام یغوثی نے اسے سن کہا ہے۔ یہ حدیث شیخین کی شرط پر صحیح ہے۔  
● انہابی شیعہ: ۱/ ۲۷۔ صحیح مسلم: ۱/ ۱۵۷۔ ۱/ ۲۹۔ ۱/ ۱۹۲۔ ۱/ ۱۹۳۔

یہ حدیث محمد بن بارہ تھن کرنے پر ضعیف محسوس ہوئی۔ ملائے سلف نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے لیکن  
اس کے بعد آنے والی حدیث اس کو تقویت دیتی ہے۔ اس میں راوی عمر بن جزہ ضعیف ہے۔ امام ذہبی اور علی بن  
مسین نے اسے ضعف کیا۔ امام احمد نے اس کی احادیث کو مکفر کیا ہے۔

حاضر مجلس تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”شاید بعض لوگ وہ کچھ بیان کرتے ہیں جو انہی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور شاید بعض عورتیں وہ کچھ بیان کرتی ہیں جو وہ اپنے خادموں کے ساتھ کرتی ہیں؟“ لوگ یہ سن کر خاموش رہے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ!

بالکل ایسے ہی ہے۔ مرد گی ایسے کرتے ہیں اور عورتیں بھی بھی کچھ کرتی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہرگز ایسا نہ کرو (ایسا کرنا) ایسے ہی ہے کہ ایک ذکر شیطان، موٹش شیطان کو رستے میں ملتا ہے۔ اور اس کو وہیں ڈھانپ لیتا (زن کرتا ہے) ہے جبکہ لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔“ \*

## ۲۲: ولیمہ کرنا واجب ہے

بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد دلہاپر ولیمہ واجب ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ نے عبد الرحمن بن عوف کو ولیمہ کا حکم دیا تھا۔ اسی سلسلہ میں دوسری حدیث بریدۃ بن حیب کی ہے کہ:

جب حضرت علیؓ نے قاطرؓ کی طرف شادی کا پیغام بھیجا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”شادی کرنے والے کے لیے یا شادی کے لیے ولیمہ ضروری ہے۔“ \*

وہ کہتے ہیں: یہ سن کر حدیثؓ نے کہا: میرے ذمے ایک مینڈھا ہے (جسی میں دوں گا) بعض نے کہا: میں اتنے یا اتنے نو ٹوپیں کروں گا۔ ایک اور روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگوں نے ان (علیؓ) کے لیے چند کلوگونج کر دیے۔

\* مندرجہ، ابن القیم شیرازی نقی ایک عدیت فصل کی ہے۔ الجوابون: ۱/۲۳۹۔ بیتی۔ لحن سنی: ۶۰۹۔ اس حدیث کو حریدو احادیث جو کہ کشف اسناد مlor جی۔ میں جس تحریت دیتی ہیں یہ حدیث شیخ یاکم از کم حسن ہے۔

\*\* مندرجہ: ۵/۲۵۹۔ طبرانی: ۱/۱۱۱۔ الحکم الطحاوی: ۲/۱۳۵، ۱۳۷۔ لحن صارک: ۱/۸۸۔ اس حدیث کی سند میں عبد الکریم بن سلیمان ہے جو علمانے اس کی روایت کو قول کیا ہے۔ لحن جبان نے اسے ثابت میں شمار کیا ہے۔ ۱۸۲/۲۔

## ۲۵: ولیمہ اور سنت طریقہ

اول: بیوی سے ہم بستری کے بعد تین دن تک ولیمہ ہے۔ یہ نبی ﷺ سے ثابت ہے۔ حضرت انس رض روایت کرتے ہیں۔

”نبی ﷺ نے ایک عورت سے شادی کی تو مجھے بھجا کر میں لوگوں کو کھانے پر بلاوں۔“

ال سے ہی روایت ہے:

”نبی ﷺ نے حضرت صفیہ رض سے شادی کی۔ آپ نے ان کی آزادی کوئی ان کا حق مہربنا لیا۔ اور آپ نے تین دن تک ولیمہ کیا۔“

دوسم: اسے چاہیے کہ وہ ولیمہ کی دعوت میں نیک لوگوں کو بلائے چاہے وہ فقیر ہوں یا دولتمند ہوں۔ کیونکہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”تو نیک آدمی کے علاوہ کسی کو اپنادوست نہ بنا اور تیرا کھانا فاظ پر ہیز گاری کھائیں۔“

سوم: ولیمہ کم سے کم ایک بکری یا زیادہ کے ساتھ کیا جائے۔ انس رض کی روایت میں ہے کہ ”جب عبدالرحمن بن عوف رض میں تشریف لائے تو نبی ﷺ نے سعد بن رجع کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا۔ سعد رض ان کو اپنے گرلے گئے۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ تو سعد رض نے ان سے کہا: دیکھو میرے بھائی! میں اہل مدینہ یا ایک روایت میں ہے کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ آپ ایسا کریں میرا آدم حمال لے لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سعد نے کہا۔ آؤ میرے باغ میں چلتے ہیں تم آدم باغ لے لواور

﴿ سعی خاری: ۹/ ۱۸۹، ۱۹۳، ۱۹۷، ۲۶۰، ۲۶۷۔ ﴾

﴿ ابوحنی نے اس کو حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جیسا کہ حبیب الدین میں ہے: ۹/ ۱۹۹۔ اس کا متن دیکھیے سعی خاری: ۷/ ۳۷۷۔ ﴾

﴿ ابوداود۔ ترمذی۔ سالم: ۲/ ۱۷۸۔ حدیث الحسید خدری اس کی سنگت ہے۔ امام ذہبی نے بھی موافق تکیہ ہے۔ ﴾

اے میرے بھائی! میری دو بیویاں ہیں، دیکھو جو تم کو پسند آتی ہے اس کا نام لوئیں اس کو طلاق دے دوں گا۔ جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی تو تم نکاح کر لیتا۔ عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کہنے لگے: اللہ کی حسم! ہرگز نہیں۔ اللہ تیرے لیے تیرے الٰل و عیال اور مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے فقط بازار کا رستہ دکھادو۔ انہوں نے ان کو بازار کا رستہ سمجھایا۔ انہوں نے وہاں سے کچھ خریدا اور وہیں نیچے دیا اور منافع حاصل کر لیا۔ پھر وہ مسلسل بازار جاتے رہے اور خرید و فروخت کرتے رہے۔

ایک دن وہ بازار سے پیغما بر حکی (بچایا ہوا) گمراہ کر آئے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ ان پر زعفران سے تیار شدہ (شادی کی مخصوص) خوشبو کے اثرات تھے۔ ایک روایت میں (خلوق) خوشبو کا ذکر ہے۔ نبی ﷺ نے ان کو دیکھ کر کہا: ”یہ کیا؟“ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں نے انصار کی ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”تو نے اسے (حق) مہر کیا دیا ہے؟“ تو انہوں نے عرض کیا: چار یا پانچ درہم کے بقدر سونا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تجھے برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری سے۔“ (یہ جائز قرار دیا) حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اگر میں پتھرا خداوں تو مکمل امید ہے کہ اسکے نیچے سونا یا چاندی ہو گی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: (عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ) کی وفات کے بعد ان کی ہر بیوی کے حصہ میں ایک لاکھ درہم آئے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جیسا اولیم حضرت نہیں بنتی رضی اللہ عنہا (کے ساتھ شادی) پر کیا ایسا اولیمہ میں نے آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بے شک آپ ﷺ نے بکری ذبح کی (لوگوں کو روٹی گوشت اس قدر کھلایا کہ وہ چھوڑ کر چلے گئے)۔

۱۔ صحیح بخاری: ۲/۸۹، ۲۲۲ - سنن نسائی: ۲/۹۳ - ابن ماجہ: ۲/۲۷۷ - بیہقی: ۷/۲۵۸ - مسنahu: ۲/۱۷۵ -

۲۔ مسلم: ۲/۱۹۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۰۴ - ابوداؤد: ۱/۱۳۵ - ترمذی: ۲/۳۲۹ -

۳۔ صحیح بخاری: ۷/۱۹۱ - مسلم: ۲/۱۷۹ - ابوداؤد: ۲/۱۳۷ - ابن ماجہ: ۱/۳۹۰ - مسنahu: ۲/۹۸ -

۲۶: گوشت کے بغیر بھی ولیمہ جائز ہے  
انسان کے لیے جو میر ہوا سے ہی ولیمہ کیا جاسکتا ہے، اگرچہ اس میں گوشت نہ  
ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”نبی ﷺ نے خبر اور مدینہ کے درمیان تین راتیں قیام کیا۔ اس دوران  
آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ آپ نے مسلمانوں کو ولیمہ کی  
دعوت دی حالانکہ اس میں گوشت تھا اور نہ ہی روٹی۔ آپ ﷺ نے  
چڑے کا دستروخان بچھانے کا حکم دیا، دستروخان بچھا دیا گیا۔ (ایک روایت  
میں ہے کہ زمین کو صاف کیا گیا اچھی طرح صاف کرنا) پھر چڑے کا  
دستروخان لا یا گیا اور اس صاف کی ہوئی زمین پر اسے بچھایا گیا۔ پھر اس پر  
سکھوں میں خشک دودھ اور گھنی چمن دیا گیا (جو لوگوں نے سیر ہو کر کھایا)۔“ \*

۲۷: صاحب ثروت لوگوں سے مدد اور ولیمہ کی دعوت  
اس کے لیے منتخب ہے کہ وہ صاحب ثروت لوگوں کو ولیمہ کی تیاری میں شریک  
کرے۔ اس کی دلیل حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے  
ساتھ نبی ﷺ کی شادی کا قصہ مذکور ہے۔

”آپ ﷺ رستے میں ہی تھے تو ام سلیم نے صفیہ رضی اللہ عنہا کو آپ ﷺ  
کے لیے تیار کیا۔ اور رات کو آپ کے پاس بیج دیا۔ آپ نے صبح اس حال  
میں کی کہ آپ دولہابن چکے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس کے پاس  
جو کچھ ہے وہ لے آئے۔“ ایک روایت میں ہے کہ جس کے پاس کچھ بیج گیا  
ہو وہ لے آئے۔ پس چڑے کا دستروخان بچھا دیا گیا، کوئی خشک دودھ، کوئی  
سکھوں اور کوئی گھنی لے آیا ان (سب اشیاء) سے کھانا تیار کیا گیا۔ لوگوں  
نے کھایا اور قریب ہی ایک تالاب سے بارش کا پانی پیا۔ پس یہ نبی ﷺ کا  
ولیمہ تھا۔“ \*

۱- صحیح بخاری: ۷/۳۸۷۔ مسلم: ۳/۱۳۷۔ نسائی: ۲/۹۲۔ بیہقی: ۷/۹۲۔ مندرجہ: ۳/۲۵۹۔ ۲۱۲، ۲۵۹۔

۲- متفق علیہ۔ مندرجہ: ۳/۱۹۵، ۱۰۲۔ ابن سعد: ۸/۱۲۲، ۱۲۳۔ بیہقی: ۷/۲۵۹۔

۲۸: فقط امیر لوگوں کو دعوت و لیمہ پر بلانا حرام ہے  
فقیروں کو نظر انداز کر کے فقط صاحب ثروت لوگوں کو ولیمہ کی دعوت میں بلانا  
نبی ﷺ کے مندرجہ ذیل فرمان کی بنی پڑھام ہے۔

”تمام کھانوں میں سب سے برا کھانا ایسے ولیمہ کا ہے جس میں امیروں کو  
بلایا گیا ہوا اور غریب لوگوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہوا اور جو کوئی دعوت قبول نہ  
کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔“ ۱

۲۹: دعوت میں حاضر ہونا واجب ہے  
جس کو ولیمہ کی دعوت پر بلایا جائے اس پر واجب ہے کہ وہ دعوت میں حاضر ہو۔  
مندرجہ ذیل دو حدیث ملاحظہ فرمائیں۔

اول: ”قیدی کو آزاد کرو، دعوت کو قبول کرو۔ اور مریض کی عبادت کرو۔“ ۲

۳۰: ”جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت میں بلایا جائے تو وہ (شادی  
وغیرہ) پر حاضر ہو جو ایسی دعوت کو قبول نہ کرے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی  
نافرمانی کی۔“ ۳

۳۰: ولیمہ میں حاضر ہوا اگرچہ وہ روزہ دار ہو  
روزہ دار کے لیے بھی نبی ﷺ کے مندرجہ ذیل فرمان کی بنی پڑھام کی دعوت و لیمہ میں حاضر  
ہونا واجب ہے۔

”اگر تم میں سے کسی کو دعوت پر بلایا جائے تو وہ ضرور حاضر ہو، اگر وہ روزہ  
کے بغیر ہو تو کھالے اور اگر روزہ دار ہو تو دعا کر دے۔“ ۴

\* صحیح مسلم: ۱۵۲/۲۔ تہذیب: ۲۲۲/۷۔ امام بخاری: ۲۲۲/۷۔ اس روایت کو موقوف ذکر کیا ہے، دیکھیے صحیح بخاری: ۹/۲۰۱۔ حافظ ابن حجر نے اس کی سند مرفوع ذکر کی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ولیمہ کے علاوہ  
عام دعوت میں فقط امیر لوگ بلایے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ \* صحیح بخاری: ۹/۱۹۸۔ عبد بن حید نے اس  
روایت کو ”امتنبٰ فی منہ“ میں نقش کیا ہے۔ ۱/۶۵۔ \* صحیح بخاری: ۹/۱۹۸۔ صحیح مسلم: ۱۵۲/۲۔ محدث  
احمد: ۲۳۲/۷۔ تہذیب: ۲۲۲/۷۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت و لیمہ میں حاضر ہونا واجب ہے۔ کیونکہ اللہ  
اور اس کے رسول کی نافرمانی کا پروانہ تو فقط واجب چھوڑنے پر ہی ملتا ہے۔ \* صحیح مسلم: ۱۵۲/۲۔ امام بن حید  
نے اس کو ”الکبریٰ“ میں روایت کیا ہے۔ (۲/۶۲) محدث احمد: ۹/۵۰۔ تہذیب: ۷/۲۲۳۔

**۳۱: دعوت دینے والے کے کہنے پر روزہ افطار کرنا**  
 اگر اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہوتا افطار کر دے خصوصاً جب ولیمہ کرنے والا اصرار کر رہا ہو۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

**اول:** ”جب تم میں سے کسی ایک کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ ضرور حاضر ہو اگر وہ چاہے تو کھائے اور اگر چاہے تو ترک کر دے۔“ \*  
**دوم:** ”نفلی روزہ رکھنے والا اپنی مرضی کا مالک ہے، اگر چاہے تو روزہ (باتی) رکھئے اور چاہے تو افطار کر دے۔“ \*

**سوم:** ”حضرت عائشہؓ نے یہ فرماتی ہیں:

”ایک دن رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور پوچھا:“ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟“ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں پھر روزہ سے ہوں۔“ پھر ایک دن ایسا آیا کہ مجھے کسی نے حیس (کھجور، ستون، گھنی کا حلوبہ) ہدیہ دیا۔ میں نے آپ ﷺ کے لیے رکھ دیا، کیونکہ آپ حیس بہت پسند کرتے تھے۔ عائشہؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! مجھے حیس ہدیہ دیا گیا ہے۔ میں نے آپ

\* صحیح مسلم۔ منhadīr: ۲/۳۹۲۔ المحب: ۱/۱۱۶۔ الحکم: ۲/۲۸۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”اگر اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا دعوت کرنے والا اصرار کر رہا ہو تو وہ روزہ افطار کر دے یا س کے لیے افضل ہے۔“ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ بھی یہی ہے دیکھئے فتاویٰ: ۲/۱۳۳۔

\* بنیت: ۲/۲۶۔ الکبریٰ لامانی: ۱/۲۶۔ حاکم: ۱/۲۳۹۔ اس کی سند صحیح ہے۔ امام ذہبی نے موافقت کی ہے۔ ساک کی سند سے یہ روایت مردی ہے۔ اور ساک اس حدیث کو روایت کرنے میں اکیلانہیں ہے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں: مجھے جده نے ام ہانی سے یہ حدیث روایت کی۔ شعبہ کہتے ہیں: میں نے جده سے کہا: کیا تم نے اے ام ہانی سے سنائے؟ وہ کہتے ہیں: مجھے میرے اہل اور ابو صالح ام ہانی کے علام نے بیان کی ہے۔ اے دارقطنی نے فراود میں روایت کیا ہے۔ (۲۰/۲، ۳۱، ۳۰) بنیت، منhadīr: ۶/۳۲۱۔ کال ابن عدی ۵۹/۱۲ اس کی تیسری شاہد حدیث کو ابوداؤ نے نقل کیا ہے۔

(بنیت) شیعہ ارباب ادوات نے اباصار حباز ام جوام ہانی کے علام ہیں کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اور کہا ہے کہ ناصر الدین البانی پر معاملہ خلط مطلقاً ہو گیا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث تمدن سندوں سے مردی ہونے کی وجہ سے مضبوط ہے۔ ہم نے اس حدیث کے شواہد کر دیے ہیں جو اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہیں۔

کے لیے بچا کر کھا ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جاوے لے کر آؤ“ پھر فرمایا: ”صح تو میں نے روزہ رکھ لیا تھا۔“ آپ ﷺ نے اس سے کھایا پھر کہنے لگے: ”بے شک نفلی روزہ کی مثال تو اس آدمی کی طرح ہے جو اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے اگر وہ چاہے تو صدقہ کر دے اور اگر چاہے تو روک لے۔“ ﴿

### ۳۲: نفلی روزہ کی قضاواجب نہیں ہے

اگر کوئی آدمی نفلی روزہ افظار کر دیتا ہے تو اس پر قضاواجب نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں دو احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

**اول:** حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:

”میں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے کھانا تیار کیا۔ آپ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہمارے ہاں تشریف لائے، جب کھانا جن دیا گیا تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا: میں تو روزہ سے ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے بھائی نے تم کو بڑی پر تکلف دعوت پر بلا�ا ہے۔“ پھر اس کو فرمایا: ”روزہ افظار کر دے اگر تو چاہے تو اس دن کی جگہ روزہ رکھ لینا۔“ ﴿

**دوسرا:** حضرت ابی جیفہ فرماتے ہیں کہ: ”بے شک رسول اللہ ﷺ نے سلمان رضی اللہ عنہ اور ابی درداء رضی اللہ عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ ایک دن سلمان، ابی درداء کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی زیب وزینت ترک کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے پوچھا: اے ام درداء! تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگیں: تیرا بھائی (ابو درداء) رات کو نماز میں لگا رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اور دنیا کی کسی چیز سے اسے دچپی نہیں ہے۔ اتنے میں ابو درداء تشریف لائے۔ انہوں نے (سلمان رضی اللہ عنہ) کو مر جا کہا اور ساتھ ہی کھانا پیش کر دیا۔“ ﴿ سن نہیں، اور اس کی سند صحیح ہے۔ میں نے ارواء الغسل میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔ (۱۳۵/۲)

(۲۳۶)

﴿ تبیق: ۲۷۹ - ۲۷۸ - اس کی سند حسن ہے۔ دیکھیے فتح الباری: ۲۰/۲۰ - ۲۰/۱ - میں کہتا ہوں: اس کو طرفانی نے اوسط میں روایت کیا ہے۔ (۱/۱۳۲) میں نے ارواء میں اس کو ذکر کیا ہے۔ (۱۹۵۲)

سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: آپ بھی کھائیں۔ انہوں نے کہا: میں تو روزہ سے ہوں۔ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے: ”میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تم روزہ ضرور افطار کر دو۔ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے۔“ (ابودرداء) نے ان کے ساتھ کھانا کھایا (سلمان صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے پاس ہی رات ٹھہرے۔ جب رات کو سونے کا وقت ہوا تو ابودرداء نے قیام کرنے کا ارادہ کیا تو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور کہنے لگے: اے ابودرداء! تیرے اور پر تیرے جسم کا بھی حق ہے۔ تیرے اور پر تیرے رب کا بھی حق ہے (تیرے اور پر تیرے مہمان کا بھی حق ہے) تیرے اور پر تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ تو روزہ رکھ اور افطار بھی کر، تو نماز بھی پڑھ اور اپنے گھر والوں کے پاس بھی وقت گزار، ہر صاحب حق کو اس کا حق پورا ادا کر۔ جب صبح قریب تھی تو سلمان نے کہا: اگر تو چاہتا ہے تو اب اٹھ جا۔ وہ کہتے ہیں: وہ دونوں اٹھئے۔ وضو کیا، نماز تہجد پڑھی، پھر صبح نماز کے لیے چلے گئے۔ ابودرداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تاکہ انہیں اس کی خبر دے سکیں جو ان کے ساتھ رات کو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اے ابودرداء! بے شک تیرے اور پر تیرے جسم کا حق ہے۔ پھر وہی کچھ کہا جو ان کو سلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سلمان نے بالکل حق کہا ہے۔“ \*

### ۳۳: اللہ کی نافرمانی پر مشتمل دعوت میں نہ جانا

اگر کسی دعوت میں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا جا رہا ہو تو اس میں حاضر ہونا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اس برائی کو واضح کرنے، سمجھانے، یا اس کو ختم کرنے کی غرض سے جائے تو جائز ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔

**اول:** حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے:

”میں نے اپنے گھر میں کھانا تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ جب

آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی نظر گھر میں موجود تصاویر پر پڑی تو

\* صحیح بخاری: /۲۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲۔ ترمذی: /۲۹۰، ۲۹۱۔ تیقی: /۲۶۲۔ ابن عساکر: /۳۷۱، ۳۷۲۔ اس حدیث میں کچھ الفاظ این بادجے کے ہیں۔ دیکھیے ۲/ ۳۲۲۔ من ابو عطی: ۱/ ۳۷۱۔ ۱/ ۳۷۲۔

آپ واپس چلے گئے۔ (علیہ السلام) کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: میرے ماں بابا پ آپ پر فدا ہوں آپ کو کس چیز نے واپس جانے پر مجبور کر دیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک تمہارے گھر میں ایک ایسا پردہ لٹکا ہوا ہے جس پر تصاویر ہیں۔ یقیناً (رحمت) کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔“ \*

دوہم: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے:

”انہوں نے ایک سکریخ ریدا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ جب نبی ﷺ کی نظر اس پر پڑی تو آپ گھر کے دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے۔ اور اندر داخل نہیں ہوئے وہ کہتی ہیں: میں نے آپ کے چہرے پر تاپسندیدگی کے اثرات دیکھ کر عرض کیا۔ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف رجوع کرتی ہوں مجھے متابیئے، میرا گناہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ سکریخ کس لیے یہاں پڑا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر نیک لگا سکیں اور اپنے سر کے نیچے رکھ سکیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تصویریں بنانے والے (اور ایک روایت میں ہے وہ لوگ جو تصویریں بنانے کا کام کرتے ہیں) قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور ان کو کہا جائے گا: جس کو تم نے بنایا اسے زندہ کرو اور بے شک وہ گھر جس میں اس طرح کی تصاویر ہوں۔ اس میں (رحمت کے) فرشتے داخل نہیں ہوتے۔“ وہ فرماتی ہیں: آپ ﷺ اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوئے جب تک میں نے اس سکریخ کو گھر سے نکال نہیں پھینکا۔“ \*

\* ابن ماجہ: ۳۲۳/۲۔ من ابو یعلی: ۳۱/۱۔ ۳۷/۱۔ ۳۹/۱۔ اس کی صحت ہے۔

\*\* صحیح بخاری: ۲۲۰، ۲۱۹/۹۔ صحیح مسلم: ۱۶۰/۶۱۔ مندہ طیاری: ۳۵۸/۳۔ ۳۵۹: ۷/۷۔ بیہقی: ۷/۷۔ ۲۶، بغوی: ۳/۲۲۳۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے جس مسلمان کو کسی ایسے دلیم و غیرہ پر بلا یا جائے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ دہاں نہ جائے۔ ہاں اگر اس کا ارادہ سمجھا نے، یا سعیہ کرنے کا ہو تو الگ بات ہے۔ میں کہتا ہوں: بظاہر ایہ حدیث، حضرت عائشہؓ سے روایت کی اس حدیث کے خلاف محسوس ہوتی ہے جو مسلمہ نبیر 38 کے تحت آری ہے۔ جس میں اس سکریخ کو پھاڑ کر استعمال کرنے کا ذکر ہے۔ (باقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سوم: آپ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص اللہ اور روز آختر پر یقین رکھتا ہے وہ ایسے دستِ خوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب رکھی گئی ہو۔“ \*

ہم نے جو موقف بیان کیا ہے۔ اس پر سلف صالحین کا عمل تھا، اس معاملہ میں اور بھی بے شمار مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ چند ایک مثالیں جو مجھے یاد ہیں ان کے ذکر پر ہی اکتفا کروں گا۔

(الف) حضرت عمر بن الخطبؓ کے غلام اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ جب عمر بن الخطبؓ شام آئے تو عیسائیوں کے ایک آدمی نے ان کی دعوت کی اور ان سے کہنے لگا: میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر اپنے ساتھیوں سمیت تشریف لائیں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ یہ آدمی شام کے سرداروں میں سے تھا۔ اس کو حضرت عمر بن الخطبؓ کہنے لگے:

”ہم تمہارے گرجا گھروں میں موجود تصاویر کی وجہ سے داخل نہیں ہوتے۔“ \*

\*\*\*\*\*  
(\* مزہد سے پوست) بعض علماء دوفوں احادیث کا مشترک مفہوم بیان کیا ہے کہ اگر تصویر کی خل بدل جائے، پھر اُدی جائے یا اس کی اصلی خل ختم ہو جائے تو اس کا استعمال جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں: اس مفہوم کی تائید آنے والی حدیث سے ہوتی ہے۔ گرفتاری یہ ہے کہ دوفوں احادیث میں جمع کے ساتھ ساتھ حدیث کے آخری الفاظ کا خیال رکھا جائے جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تصویر والا کچھ استعمال کرنا منع ہے۔ آپ نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ ہاں اگر صورت حال یہ ہو کہ اس کا ختم کرنا ہمکن ہو تو پھر ماں کے خیال سے بچتے ہوئے اس کی بیت بدل کر استعمال کرنا جائز ہے۔

اس حدیث میں یہ الفاظ ”کرفتے تصویر والے“ گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ ﷺ نے اس سے پہلے ایک اور جملہ ذکر کیا کہ ”تصویریں بنانے والے یا تصویروں کا کام کرنے والے۔“ یہ کلام تصویریں بنانے سے روکنے اور ڈاٹ کے لیے ہے۔ جب اس کے بنانے والے کے لیے اتنی سخت وعید (سرما) ہے تو استعمال کرنے والے کے لیے تو اپنے آپ عی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز کسی نہ کسی استعمال کے لیے بنائی جاتی ہے۔ بنانے والے اور استعمال کرنے والادنوں عی اس وعید میں داخل ہیں۔

\* مسند احمد بن عمر۔ ترمذی۔ امام حامم نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔ اور جابر بن عبد اللہؓ سے اس کو صحیح کہا ہے۔ امام ذہبی نے موافقت کی ہے۔ اراء افضلیں: ۱۹۳۹۔ ٢٧: ۷۔ ۲۶: ۷۔ اس کی مندرجہ ہے۔

یاد رکھو، حضرت عمر بن الخطبؓ کے قول میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو کچھ آج کل کے علماء مشائخ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ وہ بعض غیر مسلم مسددار ایں کی دعوت پر گرجا گھروں اور چچوں میں جاتے ہیں حالانکہ وہ تصاویر اور بتول سے بھرے ہوتے ہیں۔ بات بیکلیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر) \*

(ب) ابو مسعود اور عقبہ بن عمر دروایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان کی دعوت کی اور ان کے لیے پر تکلف کھانا تیار کیا۔ جب اس نے ان کو آنے کی درخواست کی تو وہ پوچھنے لگے: کیا گھر میں تصویریں ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے گھر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ ان تصویروں کو ختم کیا گیا پھر وہ داخل ہوئے۔ \*

(ج) امام اوزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”ہم اس ولیمہ میں حاضر نہیں ہو سکتے ہیں جس میں طبلہ یا سرنگی وغیرہ ہو۔“ \*

۳۳: دعوت میں حاضر ہونے والے کے لیے کیا مستحب ہے؟  
جو آدمی دعوت میں حاضر ہو۔ اس کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔

**پطی چیز:** کھانا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد دعوت کرنے والے کے لیے دعا کرے کیونکہ نبی ﷺ سے اسی طرح ثابت ہے۔ اس دعا کی کئی انواع ہیں۔ عبد اللہ بن بمر روایت کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے نبی ﷺ کے لیے کھانا تیار کیا۔ انہوں نے آپ ﷺ کو بلایا۔ آپ ﷺ دعوت میں حاضر ہوئے جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو کہا:

((اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتُهُمْ))

”اے اللہ! تو ان کو بخش دے، ان پر حرم فرمًا، اور ان کے رزق میں برکت

عطافر فرمًا۔“ \*

(گزشتہ سے پورتا) وہاں جا کر کلکٹ کفر اور گمراہی کے الفاظ بھی سنتے ہیں۔ بعض دفعہ بات کرنے والا دیسے ہی مسلمان ہوتا ہے۔ پھر اس پر خاموش رہتے ہیں وہاں پر شریعت کا حکم واضح کرنے کی تکلیف گوارانہیں کرتے۔ وہ اس بات سے بھی بخوبی آگاہ ہیں کہ وہ لوگ بربلا کہتے ہیں۔ مسلمان اور عیسائی میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں۔ کیونکہ دین تو اللہ کے لیے ہے جبکہ دن تو سب کا مشترک ہے۔ اسی طرح بعض مشائخ غیر مسلم کے لیے شہادۃ (گواہی) کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ انہیں یہ علم ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بھی گواہی مشہور و معروف شروط کی بنیاد پر ہی دی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی مشائخ غیر شرعی افعال کے ہوتے ہوئے بھی ان کے کیساوں میں حاضری دیتے ہیں اس پر بھی کہا جا سکتا ہے۔ إِنَّ اللّٰهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

۱: یعنی۔ اس کی سند صحیح ہے جیسا کہ ابن حجر نے اس کی وضاحت کی ہے۔ دیکھیے فتح الباری: ۹/۲۰۳۔

۲: فائد المفتاح: ۲/۳۔ اس کی سند صحیح ہے۔ ۳: ابن الی شیبہ: ۱۵۸/۱۲۔ ۴: مجمع مسلم: ۶/۲۱۔

ابوداؤد: ۲/۱۳۵۔ ترمذی: ۳/۲۸۱۔ یعنی: ۷/۲۲۔ مندرجہ: ۳/۱۸۸، ۱۸۷۔ امام نسائی نے اس کو الولیہ میں

ذکر کیا ہے۔ (۲/۶۶) طبرانی: ۱/۱۱۶۔

مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں:

”میں اور میرے دو ساتھی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمیں شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ ہم نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا مگر کسی نے ہماری مہماں نوازی نہ کی۔ نبی ﷺ ہمیں اپنے گھر میں لے گئے جہاں پہ چار بکریاں تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے مقداد! ان چاروں کا دودھ ہمارے درمیان تقسیم کرو۔ اسی طرح میں ان چاروں بکریوں کا دودھ اپنے درمیان تقسیم کر دیا اور نبی ﷺ کا حصہ ان کو دے دیتا۔ ایک رات نبی ﷺ لیٹ ہو گئے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آپ کسی انصاری صحابی کے گھر گئے ہوں گے۔ وہاں سے خوب سیر ہو کر کھاپی لیں گے۔ اگر میں ان کے حصہ کا دودھ پی لوں (تو کوئی بات نہیں) میں اسی طرح سوچتا رہا۔ آخر کار انھا اور میں نے آپ ﷺ کے حصہ کا دودھ پی لیا۔ پھر میں نے وہ برتن اسی طرح ہی ڈھانپ دیا۔ جب میں دودھ پی کر فارغ ہوا تو مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ میں نے جو کیا اچھا نہیں کیا۔ میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ جب اللہ کے رسول ﷺ آئیں گے تو انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی سوچ میں گم میں نے نیند کی غرض سے اپنے آپ کو کپڑے میں ڈھانپ لیا۔ میرے اوپر ایک ایسی چادر تھی جو بھیڑ کی اون سے بنائی گئی تھی۔ جب میں اس میں اپنا سرچھپا تا تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور جب پاؤں چھپا تا تو سر زنگا ہو جاتا۔ مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے آپ سے بتیں کر رہا تھا جبکہ میرے دو ساتھیوں کو کچھ خبر نہ تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رسول اللہ ﷺ تعریف لے آئے۔ اور اس انداز سے سلام کیا کہ جو جاگ رہا ہو وہ سن لے اور جو سورہ ہو وہ بیداریا بے آرام نہ ہو۔ آپ مسجد میں تشریف لائے۔ نماز پڑھی۔ پھر اس پیالے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: ((اللہمَ

اطِّعُمْ مَنْ أطِعْمَنِی وَاسْقِی مَنْ سَقَانِی))۔ ”اے اللہ! جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا اور جو مجھے پلائے تو اسے پلاؤ۔“ میں نے یہ موقع غیمت جانا۔ میں نے بڑی چھپری پکڑی۔ بکریوں کے پاس آیا۔ میں انہیں چھونے لگا کہ ان میں سے موٹی کون سی ہے تاکہ میں اسے نبی کریم ﷺ کے لیے ذبح کر سکوں۔ میں انہی یہ جائزہ لے رہا تھا کہ میرا ہاتھ ایک بکری کے تھن کو لگا جو دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ برتن پکڑا جو عام طور پر دودھ کے لیے آپ ﷺ استعمال نہیں کرتے تھے۔ میں نے اس میں دودھ دوہنا شروع کیا حتیٰ کہ وہ بھر گیا۔ میں اسے لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا: ”اے مقداد! کیا تم لوگوں نے اپنے حصہ کا دودھ پی نہ لیا تھا؟“ وہ کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ یہ پیجئے۔ آپ نے میری طرف سر (چہرہ) مبارک اٹھایا اور فرمایا: ”اے مقداد! اپنا ستر درست کرو بتاؤ بات کیا تھی؟“ میں نے کہا: آپ پہلے دودھ پیجئے پھر بتاؤں گا۔ آپ نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر مجھے پکڑا یا اور میں نے بھی پیا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ آپ سیر ہو چکے ہیں اور آپ کی دعا مجھے پہنچ چکی ہے۔ میں ہنسنے لگا حتیٰ کہ زمین پر گر گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا بات ہے؟“ میں نے انہیں سارا واقعہ سنادیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ برکت تو آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ ہم اپنے دوسرا ہے دوسرا تھیں کو بھی یہ (برکت والا) دودھ پلا دیتے۔“ میں نے عرض کیا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے جب مجھے اور آپ کو یہ برکت حاصل ہو گئی تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس کس کو یہ نہیں پہنچی۔“ \*

**۵۹۰م:** حضرت انس بن مالک یا ان کے علاوہ کسی صحابی کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ انصار

\* صحیح مسلم: ۱۲۸\_۱۲۹۔ مسند احمد: ۵، ۳، ۲/۶۔ اور ابن سعد: ۱/۱۸۳، ۱۸۴۔ اس حدیث کا بعض حصہ امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ۳۹۲/۳۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور حربی نے بھی اس کو ”الغیر“ میں صحیح کہا ہے۔ (۱/۱۸۹/۵)

کے پاس تشریف لاتے۔ جب آپ انصار کے گھروں میں بیٹھ جاتے۔ تو بچے بھاگ کرتے اور آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے، ان کو سلام کرتے۔ ایک دن چلتے چلتے آپ سعد بن عبادۃ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ جب آپ دروازہ پر پہنچ تو سعد سے اجازت طلب کی اور کہا: السلام علیکم و رحمة الله (تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو) سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: و علیک السلام و رحمة الله۔ (آپ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت نازل ہو) انہوں نے اتنا آہستہ جواب دیا کہ نبی ﷺ نے نہیں سن۔ آپ ﷺ نے تین دفعہ ایسی کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے بھی تین دفعہ ہی آہستہ سے جواب دیا جو کہ نبی ﷺ نہیں سن سکیں، نبی ﷺ تین دفعہ سے زیادہ سلام نہیں کہا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اجازت دی جاتی تو بہتر ورنہ آپ ﷺ واپس چلے جاتے۔ نبی ﷺ واپس ہوئے تو ان کے پیچھے یچھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نکلے اور عرض کی: اے اللہ کے رسول ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں نے ہر دفعہ آپ کا سلام سن لیا تھا، مگر مجھے یہ بات پسند تھی کہ آپ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ سلامتی اور برکت کا تمذکرہ (دعا) کریں۔ (پس داخل ہو جائیے) پھر وہ نبی ﷺ کو اپنے گھر میں لے گئے اور آپ ﷺ کی خدمت میں زیب (کشمکش) پیش کی۔ نبی ﷺ نے اس کو تاول فرمایا جب آپ فارغ ہوئے تو کہا:

((أَكْلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ. وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ. وَ أَفْطَرَ

عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ.))

”تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں تم پر فرشتے رحمتیں نازل کرتے

رہیں اور تمہارے پاس روزدار روزہ افطار کرتے رہیں۔“ \*

\* مسند احمد: ۳-۱۳۸، المُشكَّل: ۱/۲۹۸-۲۹۹، تحقیق: ۷/۲۸۷۔ ابن عساکر: ۷/۵۹-۶۰۔ ابو داود: ۲/۱۵۰۔

ابن ماجہ: ۱/۵۳۱۔ طبرانی: ۲۹/۲۰۲-۲۰۳۔

جان لو، یہ دعا صرف روز دار کے لیے افطاری کے وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ یہ مطلق اور عام ہے۔ ”یہ کہنا کہ تمہارے پاس روزہ دار روزہ افطار کرتے رہیں۔ یہ میزان کے لیے نقطہ توفیق ہست کی دعا ہے حتیٰ کہ اس کے پاس روزہ دار بھی روزہ افطار کریں۔ اور یہ کہ وہ اس دعوت کی طرح روزہ افطار کروانے کا ثواب بھی حاصل کرے۔ ویسے بھی حدیث میں یہ تفصیل نہیں کہ آپ اس وقت روزہ سے تھے۔ اس لیے اس کو فقط روزہ دار کے ساتھ خاص کرنا صحیح نہیں، ہو گا۔ (نقاش اسلامی صفحہ ۱۴۷)

**دوسری چیز:** اے چاہیے کہ وہ ولیمہ کرنے والے اور اس کی بیوی کے لیے خیر و برکت کی دعا کرے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ ہوں۔

❸ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

”میرا باپ فوت ہو گیا۔ اس نے اپنے ورثاء میں سات یا نو لڑکیاں چھوڑیں میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی، مجھے رسول اللہ ﷺ نے کہا: ”اے جابر! کیا تو نے شادی کر لی ہے؟“ میں نے عرض کیا: جی ہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کنواری کے ساتھ یا بیوہ کے ساتھ؟“ میں نے عرض کیا: بیوہ کے ساتھ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی۔ تو اس کے ساتھ کھیلتا اور وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کو ہنساتا وہ تجھ کو ہنساتی؟“ میں نے عرض کیا: بے شک میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے سات یا نو لڑکیاں پیچھے چھوڑی ہیں۔ میں نے یہ بات ناپسند کی ہے کہ ان جیسی ہی ایک اور لے آؤں۔ میں نے اسی لیے بڑی عورت سے شادی کی ہے کہ وہ ان کا خیال رکھے اور ان کی اصلاح کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔“ یا پھر یہ کہا: مجھے بھلانی کی دعادی۔“ \*

❹ بریدہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں: انصاریوں کی ایک جماعت نے علی رضی اللہ عنہما کو فاطمہ رضی اللہ عنہما سے شادی کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: اے ابو طالب کے بیٹے! کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: (بعض لوگوں کی طرف سے) میرے پاس فاطمہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (مرحباً وَ أَهْلَهَا) تیرا آنا مبارک ہو۔ خوش آمدید۔ اس کے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ علی رضی اللہ عنہما ان انصاری لوگوں کے پاس

(﴿گزشتہ سے پوستہ﴾) رہی وہ حدیث جو حضرت ابن زیبر سے مردی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ نے روزہ افطار کیا۔“ سخت ضعیف ہے۔ یہ روایت حضرت انس رضی اللہ عنہما سے بھی مردی ہے گریجی: بن ابی کثیر کا حضرت انس رضی اللہ عنہما سے مدع (مندا) ثابت نہیں ہے۔ الہمہ یہ بھی ضعیف ہے۔

واپس گئے جو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ پوچھنے لگے، کیا خبر لائے ہو؟ انہوں نے کہا: مجھے معلوم نہیں مگر آپ نے صرف مر جا اور اہلا کہا ہے۔ وہ کہنے لگے: نبی ﷺ کی طرف سے ان دو الفاظ میں سے ایک بھی تیرے لیے کافی تھا۔ انہوں نے آپ کو اپنا داماد تسلیم کر لیا ہے اور آپ کو خوش آمدید کہا ہے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ جب علیؑ کی شادی کا وقت آیا تو آپ ﷺ نے کہا: اے علی! دلبہ کے لیے ویسہ ضروری ہے۔ سعدؓ نے کہا: میرے پاس مینڈھا ہے۔ انصار کے بعض لوگوں نے ان کے لیے کچھ ”جو“ وغیرہ جمع کیے۔ جب شادی کی رات آئی تو آپ ﷺ نے علیؑ کو فرمایا: ”مجھے ملنے سے پہلے کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔“ نبی ﷺ نے پانی منگولیا اس میں وضو کیا۔ پھر اس کو علیؑ پر بہادریا اور کہا:

((اللّٰهُمَّ بارِكْ فِيهِمَا وَ بَارِكْ لَهُمَا فِي بِنَائِهِمَا))

”اسے اللہ ان دونوں میں برکت پیدا فرمائے اور ان کی سہاگ رات کو برکت بنا۔“ ❶

❷ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔

”جب میرے ساتھ نبی ﷺ نے شادی کی تو میرے پاس میری والدہ آئیں۔ انہوں نے مجھے ایک گھر میں داخل کیا، وہاں انصار کی کچھ عورتیں موجود تھیں۔ وہ کہنے لگیں: ((عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَّ كَ وَ عَلَى خَيْرٍ طَاهِرٍ)) (آپ کی شادی) خیر و برکت کے ساتھ ہوا اور نیک شگون (نصیب) کے ساتھ ہو۔“ ❸

❹ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ”جب کوئی آدمی شادی کرتا تو آپ ﷺ اس کو دعا دیتے اور فرماتے:

((بَارِكَ اللّٰهُ لَكَ وَ بَارِكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ يَنْكُمَا عَلَى خَيْرٍ))

”اللّٰہ تجھے برکت عطا فرمائے اور اللہ تیرے اوپر برکتوں کا نزول فرمائے اور تم دونوں کو بھلائی پر جمع کرے۔“ ❺

❶ ابن سعد: ۸/ ۲۱، ۲۰۔ طبرانی نے اس کو ”الکبیر“ میں روایت کیا ہے / ۱/ ۱۱۲۔ ابن عساکر: ۱/ ۲۸۸۔

❷ بخاری: ۹/ ۱۸۲۔ مسلم: ۱/ ۱۳۱۔ بیہقی: ۱/ ۱۳۹۔ ❸ شیعہ بن منصور: ۵۲۳۔ ابو داؤد: ۱/ ۳۳۲۔

❹ اے داری: ۲/ ۱۳۲۔ ابن ماجہ: ۱/ ۲۸۹۔ منhad: ۲/ ۳۸۔ حاکم: ۲/ ۱۳۸۔ بیہقی: ۱/ ۱۳۸۔ یہ حدیث امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے۔

## ۳۵: (اللہ کا نام چھوڑ کر) دنیاوی امور کی مبارکباد جاہلیت

کا کام ہے۔\*

شادی کرنے والے کو فقط زینہ اولاد یا دنیاوی کامیابیوں کی مبارکباد دینا صحیح نہیں ہے جس طرح بعض جاہل لوگوں کا طرز عمل ہے۔ اس بات سے کئی احادیث میں منع کیا گیا ہے۔ جن میں سے بعض کا تذکرہ درج ذیل ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عقیل بن ابی طالب نے ہشم قبیلہ کی ایک عورت سے شادی کی۔ کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہیں معروف (خوشحالی، زینہ اولاد) کی مبارکباد دینا شروع کر دی۔ تو انہوں نے فرمایا: ”ایسا مت کرو۔ اللہ کے نبی ﷺ نے اس سے منع کیا ہے۔ وہ کہنے لگے: اے ابو زید! ہمہ میں کیا کہنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا: تم یہ کہو: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ إِنَّا كَذَلِكَ كُنَّا نُؤْمِنُ)) ”اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، تمہارے اوپر برکتوں کا نزول فرمائے۔“ ہمیں اس کا ہی حکم دیا جاتا تھا۔“ \*\*

## ۳۶: دہن کا مہمانوں کی خدمت کرنا

دہن کے لیے جائز ہے کہ وہ آنے والے مہمانوں کی خدمت کرے بشرطیکہ اس نے پرده کا مکمل اہتمام کیا ہو اور کسی فتنہ و خرابی کا خطرہ بھی نہ ہو۔ \*\*\* سہل بن سعد کی حدیث میں

۱: جاہلیت میں لوگ دوہما کو الرقا و المحن - خوشحالی اور اولاد (زینہ) کہہ کر مبارکباد دیتے تھے۔

۲: ابن ابی شیرب: ۷/۲-۵۲۔ مصنف عبد الرزاق: ۶/۱۸۹-۱۰۳۵۸۔ نسائی: ۲/۹۱-۱۰۳۲/۲۔ محدث: ۷/۱۲۷۔ منhadim: ۳۴۹۔ حافظ کہتے ہیں: اس سند کے تمام راوی مضمبوط ہیں گر جس نے عقیل سے نہیں ہے۔ لیکن بعض علمانے کہا: اس دعویٰ کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں: جس بصری نے یہاں سائے کی وضاحت نہیں کی اس لیے یہ حدیث منقطع ہے گراں کے دیگر شواہد موجود ہیں جن میں سے ایک منhadim اور دوسرا ”الموضع“ میں روایت کیا گیا ہے۔ ۲۵۵/۲۔

۳: یہاں شرمندی پرده مراد ہے اس میں آٹھ چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ (۱) تمام بدن کو اچھی طرح ڈھانپا جائے (۲) یہ پرده زینت کا باعث نہ ہو۔ (بقیہ حاشیاً لگائے صفحہ پر) \*\*\*\*

ہے کہ جب ابو سید الساعدی رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو نبی ﷺ اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو کھانے پہ بلایا۔ اس کھانا کی تیاری اور اسے مہماں کی خدمت میں ان کی بیوی نے پیش کیا۔ انہوں نے خود کچھ نہ کیا۔ اس (عورت) نے پھر کے ایک برتن میں رات کو بکھریں بھجوکر کھی تھیں جب نبی ﷺ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے اپنے ہاتھ سے تیار کردہ شربت خاص طور پر نبی ﷺ کو بطور تخفہ پیش کیا۔ اس دن ان کی بیوی ان کی خدمت کرتی رہی حالانکہ وہ دلہن تھی۔ ۱

### ۳۷: دف بجا کر اشعار وغیرہ پڑھنا

**اول:** رجیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں:

”جب نبی ﷺ کی شادی میرے ساتھ ہوئی، آپ تشریف لائے۔ اور میرے ساتھ بستر پر بیٹھ گئے (جیسے تم میرے قریب بیٹھے ہو) چھوٹی بچیوں نے دف بجانا شروع کر دی۔ وہ اپنے آبا اور اجداد کے وہ کارنا مے ذکر کرنے

(۴) گزشت سے پوتے۔ (۵) کپڑا مونا ہوا بریک نہ ہو۔ (۶) اتنا ٹکڑ نہ ہو کہ جسم کی عناوٹ ظاہر ہو۔ (۷) اس نے خوشبو نہ لگا کی ہو۔ (۸) اس کا لباس مردوں کے لباس کی طرح نہ ہو۔ (۹) کافر عروقون کا لباس نہ ہو۔ (۱۰) لباس شہرت (سب کی توجہ کا مرکز) نہ ہو۔

میں نے اس موضوع پر مستقل کتاب لکھی ہے جس میں یہ تمام شروط دلائل سے ثابت کی گئی ہیں۔ کتاب کا نام ہے (حجاج المرأة المسلمة في الكتاب والسنة) صحیح بخاری: ۹، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۰۔ ادب المفرد: ۷۳۲۔ صحیح مسلم: ۶/۱۰۳۔ صحیح ابو عوانہ: ۸/۱۳۱۔ ابن ماجہ: ۵۹۱۔ طبرانی: (۱/۱۳۲)۔

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دلہن کے لیے مہماں کی خدمت کرنا جائز ہے۔ اس بات میں کوئی مشکل نہیں کہ یہ اس وقت ہی ہے جب قفت اور خرابی کا خطرہ نہ ہو۔ اسی طرح خاوند بھی اپنی بیوی کی خدمت کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اجازت پر وہ کامنہ نازل ہونے سے پہلے کی ہے گریے بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ آج بھی کئی مختلقوں میں دیکھا گیا ہے کہ دلہن مکمل پر دے اور عزت و دوقار کے ساتھ مہماں کی خدمت کرتی ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ”عورت کا شادی میں خود مہماں کی خدمت کرنا“ کے عنوان سے ایک باب ذکر کیا ہے۔ لیکن ان شروط کا خیال رکھا جائے جو ہم نے ذکر کر دی ہیں۔ آج کل اکثر عورتیں اسلامی آداب کو پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔

۲ دف کو ایک طرف چڑا کا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے خالی ہوتی ہے، اور آواز میں ترجمہ نہیں ہوتا۔ (ترجم)

لگیں جوانہوں نے جنگ بدر میں شہادت سے قبل سرانجام دیے تھے۔ ان میں سے ایک بھی کہنے لگی: ہمارے درمیان ایسے نبی ﷺ موجود ہیں جو کل کے متعلق جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ بات مت کرو اور وہی بات کرو جو تم پہلے کہہ رہی تھی۔“ \*

**دوہم:** حضرت عائشہؓ نے تھارا روایت کرتی ہیں کہ انصار میں سے ایک عورت کی شادی ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے عائشہ! تمہارے ساتھ کوئی کھیل تماشہ نہیں ہے۔ انصار تو کھیل تماشہ پسند کرتے ہیں؟“ \*

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے اس عورت کے ساتھ ایک لوٹڑی کو کیوں نہ لیا جو دفع جا کر کچھ گاتی؟“ وہ کہتی ہیں: میں نے عرض کیا: وہ کیا کہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ یہ کہے۔“

أتینا کم أتینا کم فحيونا نحیکم.

”هم تمہارے پاس آئے، ہم تمہارے پاس آئے۔ تم ہمیں خوش آمدید کہو، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔“

لو لا الذهب الأحمر ماحت بواديكم

”اگر سرخ سونانہ ہوتا تو صحراء کے لوگ تمہارے پاس نہ آتے۔“

لو لا الحنطة السمراء ماسمت عذاريكم \*

اگر بھوری رنگت والی (بہترین قسم کی) گندم نہ ہوتی، تو تمہاری لڑکیاں موٹی نہ ہوتیں۔“

**سوم:** ”نبی ﷺ نے بعض لوگوں کو سنا۔ شادی کے موقع پر یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

\* صحیح بخاری: ۲/۹، ۳۵۲۔ ۱۶، ۱۲۶، ۱۷۔ یعنی: ۷/۲۸۸۔ مندرجہ: ۶/۳۵۹۔

\* صحیح بخاری: ۲/۱۸۵، ۱۸۲۔ یعنی: ۷/۲۸۸۔

\* طبرانی نے زوائد میں اس کو روایت کیا ہے۔ ۱/۱۷۔ اس میں ضعف ہے مگر ایک اور مندرجہ یہ قوی ہے۔ دیکھیے ارواء الغلب (۱۹۹۵)۔

وَأَهْدٰى لَهَا أَكْبَشٌ يَجْعَلُ فِي الْمَرْبَدِ  
”میں ان کو ایک دنبہ ہدیہ دوں۔ وہ دنبہ جو بکریوں، بھیڑوں کے باڑے میں  
آواز نکالتا ہے۔“

وَجَبَكُ فِي النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ  
”تیری محبت (خاوند) مجلس میں ہے۔ اور وہ جانتا ہے کہ کل کیا ہو گا۔“  
اور ایک روایت میں ہے:

وَزَوْجَكُ فِي النَّادِي وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ  
”اور تیرا شوہر محفل میں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ کل کیا ہو گا۔  
وَكَہْتٰی ہیں: نبی ﷺ نے (یہ سن کر) فرمایا:  
”کل کے متعلق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔“ \*

**چهارام:** عامر بن سعد الحنفی روایت کرتے ہیں۔

”میں قرظ بن کعب اور ابی مسعود کے پاس آیا۔ انہوں نے تیسرے کا بھی  
ذکر کیا۔ جس کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا۔ وہاں لڑکیاں دف بجا کر کچھ گا  
رہی تھیں۔ میں نے کہا: تم دف سن رہے ہو حالانکہ تم نبی ﷺ کے ساتھی  
ہو؟ انہوں نے کہا: نبی ﷺ نے شادی کے موقع پر ہمیں (دف) کی اور  
مصیبت کے وقت روئے کی اجازت دی ہے۔“

اور ایک روایت میں ہے:

”میت پر بغیر حجۃ و پکار کے روئے کی اجازت دی ہے۔“ \*

**پنجم:** ابن عثیمین سیم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں:

”میں نے محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں نے دعورتوں سے شادی کی ہے۔  
کسی پر بھی دف نہیں، بھائی گئی۔ محمد رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:  
”حلال اور حرام (آوازوں) کے درمیان حدفاصل ”دف“ کی آواز ہے۔“ \*

ششم: ”نکاح کا اعلان کرو۔“

### ۳۸: شریعت کی مخالفت سے بچنے کا حکم

آدمی کو چاہیے کہ وہ اس (پرسرت) موقع پر شریعت کی مخالفت سے بچ، خصوصاً جب موجودہ دور میں بے شمار لوگوں نے ایسے موقع پر شریعت کی مخالفت کو عادت بنالیا ہے حتیٰ کہ علماء کے خاموش رہنے کی وجہ سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے امور جائز ہیں۔ ذیل میں ہم شریعت مخالف بعض کاموں پر تنبیہ کر رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

#### (۱) تصاویر لٹکانا

اول:۔ دیواروں پر تصاویر لٹکانا۔ چاہے وہ مجسم ہوں یا دیگر تصاویر ہوں ان کا سایہ ہو یا نہ ہو۔ ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا پھر فون گرافی (کیمرے) کے ذریعے یہ سب کی سب حرام اور ناجائز ہیں۔ جس آدمی کے پاس اختیار ہوان کو پھاڑ دے یا کم از کم اتار دے۔ اس سلسلہ میں کئی احادیث وارد ہیں۔

① حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں: نبی ﷺ میرے پاس تشریف لائے میں نے اپنے گڑیاً گھر کے سامنے ایک پرده لٹکا کر کھا تھا جس پر تصاویر بنی ہوئی تھیں (ایک روایت میں ہے کہ اس پر ایک گھوڑے کی تصویر تھی جس کے پر بھی بننے ہوئے تھے) جب آپ ﷺ کی نظر اس پر پڑی تو اس کو پھاڑ ڈالا۔ اور آپ کے چہرے کارنگ بدلت گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہو گا جو تخلیق کے ذریعے اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں (ایک روایت میں ہے کہ ان تصویریں بنانے والوں کو سخت عذاب ہو گا۔ انہیں کہا جائے گا جو تم نے بنایا اس کو زندہ کرو۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔“

عائشہؓ فرماتی ہیں: ہم نے اس کپڑے کو پھاڑ ڈالا اور اس سے دو تکیے بنالیے گزشتہ سے پوست) کہا یہ حدیث حسن ہے۔ ابن ماجہ۔ منhadīm: ۳/۳۸۱۔ اس کی سند صحیح ہے۔ امام ذہبی نے اسکی موافقت کی ہے۔ میرے خذیلہ کی سند حسن ہے۔ دیکھیے (ارواہ الغلبی ۱۹۹۳)۔

ابن حبان: (۱۲۸۵) طبرانی: ۶۹/۲/۱۔ امشی: ۲/۲۲/۱۔ اس کی سند حسن ہے۔ اور اس کے روایی ثقہ ہیں۔

(میں نے نبی ﷺ کو دیکھا وہ ان میں سے ایک پر فیک لگائے ہوئے ہیں جبکہ اس پر تصوری بھی تھی۔)

## ② حضرت عائشہؓ سے تی روایت ہے:

”میں نے نبی ﷺ کے لیے ایک تکیری تیار کیا جس میں تصویریں تھیں۔ وہ تکیری چھوٹا سا تھا۔ آپ (اے دیکھ کر) دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا میں نے عرض کیا: ”ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”یہ تکیری کیسا ہے؟“ میں نے عرض کیا: میں نے اس تکیری کو اس لیے تیار کیا تاکہ آپ اس پر آرام فرماسکیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تجھے علم نہیں کرفتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، اور تصویر بنانے

۱۔ صحیح بخاری: ۱۰/۳۲۸، ۳۲۷۔ صحیح مسلم: ۶/۱۵۸۔ ۱۶۰۔ یہیں: ۷/۲۶۹۔

میں کہتا ہوں: اس حدیث سے دوفائدے حاصل ہوئے۔ (۱) تصویر کا لکھانا یا اس چیز کو لکھانا جس پر تصاویر ہوں حرام ہے۔ (۲) تصویر حرام ہے چاہے اس کا سایہ ہو یا نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا: جس کا سایہ نہ ہو وہ تصویر جائز ہے، مگر یہ مذہب باطل ہے کیونکہ پر وہ پر تصویر بیشتر سایہ کے تھی جس کو آپ ﷺ نے پھاڑنے کا حکم دیا۔ بعض نے کہا کہ یہ تصویر ایسی تھی جس میں گھوڑے کے پر بنائے گئے تھے جو حقیقت کے خلاف ہے اس لیے آپ ﷺ نے اسے پسند فرمایا۔ مگر یہ بات بھی کمی لحاظ سے غلط ہے۔ حدیث میں کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں پایا جاتا کہ آپ کے انکار کا سب خلاف حقیقت تصویر تھی بلکہ اس کی طرح تو اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ آپ نے کہا: ”جس گھر میں تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔“ یہاں فقط تصویر عام ہے ایک دوسرا حدیث میں وضاحت ہے کہ آپ ﷺ نے اس گھوڑے کو پسند فرمایا۔ رعنی ابو طلحہ حدیث ”کرفتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو، مگر یہ کہ وہ تصویر کپڑے پر ہو۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لگلی ہوئی نہ ہو اور اسے تحریر اور بوسیدہ کر کے استعمال کیا گیا ہو۔ جس طرح عائشہؓ سے تھا کا قول ہے۔ (جب انہوں نے پھاڑ کر تکمیل کیا) تو آپ اس پر فیک لگا کر پیشے گویا کہ اسکی تصویر فرشتوں کے گھر میں داخل ہونے میں رکاوٹ نہیں جو (کئی ہوئی اور تحریر ہو)

ایسے بعض لوگوں نے استدال کیا کہ کپڑے اور ورق پر تصویر جائز ہے۔ یہ ایک زبردست مخالفت ہے۔ حدیث سے فقط اس شرط پر استعمال کا جواز ملتا ہے جس کی تعریف ہے: ہم نے کردی۔ ورنہ تصویر بنانا حرام ہے جس طرح آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ تصویریں بنانے والے، قیامت کے دن انہیں عذاب دیا جائے گا۔“ اس واضح نفس کو چھوڑنا صحیح نہیں ہے۔ جو آدمی انصاف پسند ہے اس کے سامنے بات واضح ہے۔ اس سے یہ بھی پڑھتا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ تصویر والا کپڑا خریدے کیونکہ یہ گناہ کا تھا وہ اسے۔ اگرچہ بطور تحریرات استعمال کے لیے خریدنا چاہے۔ وہ آدمی جس کو علم نہ ہوا وہ ایسا کپڑا خرید لے تو اس کے لیے تصویر کو (پھاڑ کر) یا اسکی توہین اور تحریر انداز میں استعمال کرنا جائز ہے۔ کیونکہ ذکر کوہ تکیری جو تصویر تھی اس کو درمیان سے پھاڑ دیا گیا تھا۔

والے کو قیامت کے دن عذاب ہوگا۔ اسے کہا جائے گا جو کچھ تم نے تحقیق کیا ہے اس میں جان ڈالو۔“ ایک روایت میں ہے: ”تصویریں بنانے والے انہیں قیامت کے دن عذاب میں بتلا کیا جائے گا۔“ حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں: ”آپ ﷺ اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوئے جب تک میں نے اس کو (تکیر) نکال نہ دیا۔“ \*

نی ۳ میں ﷺ کا فرمان ہے:

”میرے پاس جرمیں آئے اور مجھے کہا: میں آج صحیح آپ کے پاس آیا تھا۔ مجھے اندر آنے سے جس چیز نے روکے رکھا وہ یہ تھی کہ دروازے پر کچھ تصاویر اور گھر میں باریک قسم کا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اس میں بھی کچھ تصویریں تھیں اور یہ کہ گھر میں کتا تھا۔ پس آپ تصاویر کا سرختم کرنے کا حکم دیجیے تاکہ وہ درخت کی شکل اختیار کر جائیں اور پردہ کو پھاڑنے کا حکم دیجیے تاکہ اس سے تکیے وغیرہ، ہنالیے جائیں اور آپ لوگ اس پر بیک لگا سکیں، اور کتنے کو گھر سے نکلنے کا حکم دیجیے۔ پس بے شک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر یا کتا ہو۔“ یہ کتنے کا پچھہ حسن یا حسین رض کا تھا جو ان کی چار پائی کے نیچے بیٹھا تھا۔ آپ ﷺ کے حکم سے اسے نکال دیا گیا۔ پھر آپ ﷺ نے پانی منگوایا اور اس جگہ پر چھڑک دیا۔“ \*

\* صحیح بخاری: ۱/۲/۲۸۰۵۔ الفوائد: ۶/۲۸۰۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم اور دیگر کئی لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اس کو ہم نے (الأخلاق والمحرام) کی تحریک میں ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ جس گھر میں تصویر یا واس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلے گے کہ جب تک تصویر گھر میں ہوا کرچہ اس کا استعمال تصریف انداز میں ہو، فرشتے پھر بھی داخل نہیں ہوتے، کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے کہ آپ ﷺ اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک اسے نکال نہیں دیا گیا۔ اور اس حدیث میں یہ کلمات بھی ہیں:

”فرشته اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہوں۔“

\* ابو داؤد: ۲/۲۸۹۔ نسائی: ۲/۳۰۵۔ ترمذ: ۲/۲۱۔ صحیح ابن حبان: ۲/۱۳۷۔ مسند احمد: ۲/۳۰۵، ۳۰۸۔ صحیح مسلم: ۲/۱۵۶۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تصویر کی وہ تبدیلی جس (باقیہ حاشیاً گلے صفحہ پر)

## (۲) دیواروں کو پردوں اور قالینوں سے سجانا۔

دوسری چیز جس سے پختا ضروری ہے۔ وہ دیواروں اور (گمراہ) پردوں اور قالینوں

(گزشتہ سے پوست) سے اس کا استعمال جائز ہو جاتا ہے وہ ہے جو اس کے خدوخال اور اُنکل صورت کو ہی بدل دے۔ بعض لوگ نصوص کی غلط تداویل یا پھر لوگوں کی رائے کو ان پر ترجیح دے کر حقیقت میں ان دلائل سے جان پھرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال "محل نور الاسلام" میں چینے والا طویل مقالہ ہے جو میں نے چد سال پہلے پڑھا ہے۔ اس جگہ کا نام "محلۃ الازم" رکھا گیا۔

اس میں یقوتی دیا گیا تھا کہ مسلمان صور کے لیے جائز ہے وہ مکمل بتتا ہے اور اس کے سر میں ایک گزٹ حالت دے جو اس کے دماغِ حکم پہنچا ہوا ہو (تا کہ اس میں تبدیلی اور اسکی توہین ہو)۔ پھر یہ گل افتخاری کی گئی فتنہ تھا کہ فطرت یہ عجیب ناظرین سے چھپانے کے لیے اس کے سر کے اوپر بال رکھ دیئے جائیں اس سے پیارے نظر آئے گا کہ اس میں کوئی عجیب نہیں ہے۔ اس سے دنیا والے بھی راضی ہو جائیں گے اور شارع (الشَّعْل) بھی۔

اے مسلمان بھائی! کیا تو نے شریعت اور اس کی نصوص کے ساتھ ایسا ناقصی کی دیکھا ہے جس طرح کافر اُن

اس مفرسالے میں کیا گیا ہے؟

اللہ کی حرم ایتی فتنی اسرائیل والی حرکتیں ہیں جن پر اللہ کی لمحت اور غضب ہوا ہے ان کے متعلق اللہ نے کہا: ﴿وَمُنْتَهُمْ عَنِ الْفُرُوجِ الْمُنْكَرِ كَانَتْ حَادِثَةً أَبْخَرُوا إِذْ يَقْتَلُونَ فِي الشَّبَابِ إِذْ قَاتَلُوكُمْ حِجَّةَ نَعْلَمُهُمْ شَرَّ حَاوَ وَنَوْمٌ لَا يَسْبُغُونَ﴾ لَا تَقْتِلُهُمْ ۝ كَلِيلٌ ۝ بَلْ يُؤْلَمُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْسُفُونَ ۝ [۷/الاعراف: ۱۶۳]

ترجمہ: "اور آپ ان لوگوں سے اس سُقیٰ والوں کا جو کر دیا یہ (شور) کے قریب آباد تھے اس وقت کا حال پوچھیئے جب کہ وہ بخت کے بارے میں حد سے کل کر رہے تھے جب کہ ان کے بخت کے روز تو ان کی چیزیں ظاہر ہو ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں اور جب بخت کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھیں۔ ہم ان کی اس طرح پر آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہہ نافرمانی کرتے تھے۔"

ان کے متعلق یہ نبی ﷺ نے فرمایا تھا: "الشان یہود یوں کو جاہد و باد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر چلنی کو رام کیا تو انہوں نے اسے آگ پر پکایا اور بچ کر اس کی قیمت کھائی۔" متفق علیٰ۔

اُسی لیے آپ ﷺ نے ہمیں ان کی تقلید سے پچھے کا حکم دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "تم اس چیز کا ارکاب مبت کرو جس کے یہودی مرکب ہوئے تھے۔ انہوں نے تو عمومی طلبوں سے اللہ کی رام کردہ اشیاء کو جائز قرار دے لیا تھا۔" مگر ان سے مشابہت انتیار کرنے والوں پر اسکی یادیں کب اثر کرتی ہیں۔

اُسی طرح کا ایک اور بہتر بخش لوگوں نے بتایا کہ ہاتھ سے ہاتی گئی تصویر اور کمرہ و فیرہ سے لی گئی (عکسی) تصویر میں حرمت و حل نکل کے لحاظ سے کافی فرق ہے۔ عکسی تصویر انسان کے ہاتھ کا عمل نہیں بلکہ اس میں فتنہ ایک سائے کو محفوظ کرتا ہے۔ ان لوگوں کو انسان کے ہاتھ کی وہ عہن ترتیب نہیں آتی جو اس آکر کمرش و جوہنی لانے کے لیے دن رات صرف کی گئی ہے۔ جس کی مدد سے آج انسان ایک لمحے میں تصویر محفوظ کر لیتا ہے۔ ویسی یوں قلم اور دیگر آئے وہ بھی اسی میں داخل ہیں۔ اسی طرح تصویر کی ڈولیٹک پر جنگ (بیتہ ماشیا گلے صفحہ پر)

وغیرہ سے سجانا ہے اگرچہ یہ قالیں وغیرہ ریشمی نہ بھی ہوں کیونکہ یہ فضول خرچی اور غیر شرعی زینت ہے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہؓؑ کی مندرجہ ذیل حدیث ہے:

(✿ گزشتہ سے پیوست) اور وہ کچھ جو میری معلومات میں نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ان کے ہاں کے ہاتھ کی محنت نہیں ہے؟

استاذ ابوالوقاء درویش تصویر کشی کے فن کے متعلق لکھتے ہیں کہ تصویر کی تیاری میں عتف قسم کے گیارہ افعال سر انجام دیے جاتے ہیں اس کے باوجود وہ بغیر کسی پریشانی کے لکھتے ہیں۔ ”یہ تصویر کشی انسانی عمل نہیں ہے“ (دیکھیے کتاب کیف تم التصویر: ص ۳۳، ۳۵۔) ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عکس تصویر کا لٹکانا جائز ہے۔ اگر تصویر ہاتھ سے نہیں ہو تو جائز نہیں ہے۔

محترم قاری! کیا آپ نے ایسا جو دیکھا ہے؟ ان لوگوں نے تصویر کشی کے اس جدید فن کو اس قدیم فن کے ساتھ جس کو آپ نے حرام قرار دیا تھا لانے کی بجائے اس وقت اور آج کے فن میں فرق کردار۔ میں نے ائمہ سال پہلے ان کو کہا تھا: تھہاری بات سے یہ لازم آتا ہے کہ تم اس بست گری کو جائز قرار دو جو آج کل جدید وسائل کی بنا پر، فنا مکمل کا بنیں دبا کری جاتی ہے۔ ایسی فیکٹریوں میں تو ایک لمحے کے اندر کئی کمی بنتے ہیں۔ تم لوگ ان بتوں کو جو بچوں کے کھلے کے لیے ہتھے جاتے ہیں، کیا کہو گے؟ اور تم جانوروں اور بتوں کی (ایکٹریاک) کارگیری کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تو وہ حرام ہو گئے اور ان سے کوئی جواب بن سپاپا۔

آخر میں ہم سمجھ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی تصویر کشی اور اس کا استعمال ناجائز ہے۔ لیکن ایسی تصویری جس میں فائدہ عطف ہو اور بظاہر اس کا کوئی ہر اڑ بھی نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ جس طرح کم میڈیکل، جغرافی، مجرموں کو پکڑنے، ان سے خبردار کرنے کے لیے اور دیگر ایسی اصادیروں پر۔

اس سلسلہ میں ایک حدیث تو پہلے گزر بھی جس میں حضرت عائشہؓؑ کے پاس طلاق پر میں گھوڑے کی تصویر کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث بتت موزعیت ہاتھیاں کرتی ہیں:

”نی ہاتھیاں نے ایام عاشورا کی صبح مدینہ کی قریبی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے صحیح اظماری کی حالت میں کی وہ بیت دن پورا کر لے اور جس نے صحیح روزہ کی حالت میں کی اسے چاہیے کہ انہار و زہ پورا کر لے۔ وہ کہتی ہیں: ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے تھے جیسے اللہ کو منظور ہوتا ہم لوگ سجد بھی جاتے۔ ہم ان بچوں کے لیے روئی وغیرہ سے مکھلوٹا ہیا کر اپنے ساتھ رکھتے۔ جب کوئی پچھ کھانا طلب کرتے کرتے کرتے تو پڑتا تو ہم اس کو وہ مکھلوٹا دیتے حتیٰ کہ اظمار کا وقت ہو جاتا۔ ایک روز ایتھ میں ہے کہ جب صحیح ہم سے کھانا مانگتے تو ہم ان کو ان مکھلوٹوں سے لاحق کاتے حتیٰ کہ ان کا روزہ پورا ہو جاتا۔“ صحیح بخاری / ۲: ۱۶۳۔ صحیح مسلم / ۲: ۱۵۲۔

ان دونوں احادیث سے پتہ چلا ہے کہ اگر تصویر کشی کی مصلحت کے لیے ہو تو جائز ہے جیسا کہ تینی پہلو، تہذیب نفس، اور اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت اور دیگر ایسے امور وغیرہ اس کے علاوہ تصویر کشی کا اصل حکم باقی ہے جو اس کے حرام ہونے کا ہے۔ جیسا کہ علماء، مشائخ، دوستوں اور بڑے لوگوں کی تصویریں ہاتھا، اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے بالآخر اس میں بچوں کے پچاریوں اور کافروں سے تثیہ ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانے والا ہے۔

”نبی ﷺ ایک غزوہ پر جانے کی بنا پر گھر میں موجود نہیں تھے میں نے ان کے واپس آنے تک موقع غیمت جانتے ہوئے ایک بچھونا حاصل کیا جس میں سچھ تصادیر وغیرہ بنی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے جھتیر (چھت کی لکڑی) پرڈال دیا۔ جب نبی ﷺ واپس آئے تو میں ان کو جو گھر میں تھی اور کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! السلام علیک و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ اللہ کے لیے ہی تعریف ہے جس نے آپ کو عزت دی، آپ کی مدد کی۔ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور آپ کو بزرگی عطا فرمائی۔ وہ کہتی ہیں: آپ ﷺ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے میں نے ان کے چہرے پر غصہ کے آثار دیکھے۔ آپ جلدی سے گھر میں داخل ہوئے آپ نے اس بچھونا پر ہاتھ ڈالا اس کو کھینچا اور پھاڑا لالا پھر فرمایا: ”کیا تم دیواروں کو ایسے پرده کے ساتھ مزین کرتی ہو؟ جس میں تصاویر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عطا کردہ رزق سے پھرولوں اور مٹی کو پہنانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں: میں نے اس کو پھاڑ کر دو سکتے ہیں اذالے ان کے اندر کجھوں کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ پس آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کہتی ہیں: آپ ﷺ ان پر آرام کرتے تھے۔“

ای لیے تو بعض سلف صالحین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے جس کی دیواروں پر پرده چڑھایا ہوا ہوتا تھا۔ سالم بن عبد اللہ کہتے ہیں۔

”میں نے اپنے باپ کے ہمدرد میں شادی کی۔ میرے باپ نے لوگوں کو دعوت پر بلایا۔ ابوالیوب بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ میرے گھر کو دوستوں نے سبز رنگ کے مختلف تکیوں اور بچھونوں سے سجار کھا تھا۔ ابوالیوب مجھے کھڑا دیکھ کر اندر داخل ہوئے اور گھر کو سبز کپڑوں سے سجادہ کیا تو کہا:

\* صحیح مسلم: ۶ - مسندا حمود: ۲۷۴۳ / ۸ - ابو حانفہ: ۱ / ۲۵۳ / ۸ -

اس حدیث سے پڑھتا ہے۔ دیواروں پر کپڑے وغیرہ چڑھانا منوع ہے۔ اگرچہ حدیث میں اس پرداز کا ذکر ہے جس پر تصویریں تھیں لیکن میں کہتا ہوں کہ تصاویر والا یا عام کپڑا دیواروں پر چڑھانا منع ہے کیونکہ حدیث میں لفظ (کیا تم دیواروں کو پہنانی ہو) اس روایت میں دونوں سبب مذکور ہیں۔

اے عبداللہ! کیا تم لوگوں نے دیواروں کو بھی پہنار کھا ہے۔ میرے باپ نے شرماتے ہوئے کہا: اے ابوالیوب: ہم پر عورتیں غالب آگئی ہیں۔ ابوالیوب کہنے لگے: دوسروں کے بارے میں تو مجھے خوف تھا مگر تیرے بارے میں مجھے یہ ڈر ہرگز نہ تھا کہ تجھ پر بھی عورتیں غالب آ جائیں گی۔ پھر کہا: میں نہ ہی تو تمہارے گھر سے کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی اس میں داخل ہوں گا۔ اس کے بعد وہ گھر سے نکل گئے۔\*

### (۳) بھنوں کے بال وغیرہ کو اکھاڑنا

تیری بات۔ بعض عورتیں اپنے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے بھنوں کے بال اکھاڑ کر ان کو قوس یا بیلاں (چاند) کی طرح بنانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس فعل سے نبی ﷺ نے منع بھی کیا ہے اور ایسا کرنے والی عورت پر لعنت بھی فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے (جسم) گودنے والیوں اور (جسم) گدوانے والیوں بال جوڑنے والی، چہرے کے بال نکلنے والیوں اور نکلوانے والیوں، دانتوں کو حسن کے لیے کشادہ کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتی ہیں۔“\*

### (۴) ناخنوں کو لمبا کرنا اور نسل پاپاش لگانا

ایک اور قبح اور بدی عادت جو یورپ کی فاقہ و فاجر عورتوں سے ہماری مسلمان عورتوں میں سراہیت کر رکھی ہے وہ ناخنوں کو پاپاش لگانا اور ان کو لمبا کرنا ہے۔ یہ پاپاش سرخ رنگ ہے جسے آج کل (سینکرو) کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بعض مسلم نوجوان بھی اس بیماری میں جلا نظر آتے ہیں۔ جہاں یہ عمل اللہ تعالیٰ کی فطری تخلیق کو بدلتے کے مترادف ہے وہاں پر اس کا

\* اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ۱/۲۱۹۲۔ این عسکر: ۵/۲۔ ابو بکر المروزی نے اسے الورع میں بیان کیا ہے۔ ۲/۱۰۰۔ امام بخاری نے اسے شرح النہ میں بیان کیا ہے۔ ۲/۲۳۳۔ عورتیں سوئی وغیرہ سے جسم کو رشم کر کر سرمه بر لگی ہیں۔ (ترجم) \* سعیج بخاری، ابو داؤد۔ وکھیے سلسلہ احادیث مجموعہ: ۲۶۹۷۔

\* سعیج بخاری: ۱۰/۱۰۔ ۲۳۲، ۲۷۱، ۳۰۰، ۳۰۶۔ سعیج مسلم: ۶/۱۹۱، ۱۹۷۔ ابو داؤد: ۳/۱۹۱۔ ترمذی: ۲/۲۳۳۔ وغیرہ۔

سُلْطَنِيَّةٌ مُهَمَّةٌ اَوْ كِتَابٌ بَارِثٌ

مرتکب اللہ کی لعنت کا سزاوار ہے۔ مزید یہ کہ اس میں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ مشاہدہ بھی ہے۔ اس فعل سے متین پر کئی احادیث ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ((.....جس کسی نے کسی قوم کے ساتھ مشاہدہ اختیار کی وہ انہی میں سے ہی ہو گا۔)) یہ عمل فطرت کے بھی خلاف ہے: **فِطْرَةُ اللَّهِ الْأَنْبَىٰ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا** [الرَّمَادُ: ۳۰] ”اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔“ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”پانچ چیزوں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، موچھوں کو چھوٹا کرنا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔ ایک روایت میں ہے کہ ”زیر ناف بال صاف کرنا، موچھیں کترانا، ناخن تراشنا اور بغلوں کے بال اکھاڑنا۔“

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”نبی ﷺ نے ہمارے لیے موچھیں کترانے، ناخن تراشنے، بغلوں کے بال اکھاڑنے، زیر ناف بال صاف کرنے کا وقت مقرر کیا، کہ ہم ان کو چالیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔“

## (۵) داڑھی منڈانا

اسی طرح ایک اور قیچی فعل داڑھی منڈانا ہے۔ اکثر مسلمان مرد یورپ کے کافروں کی تعلیم میں داڑھیاں منڈائے ہوئے ہیں۔ یہ فعل بھی کم از کم عورتوں کے ناخن بڑھانے جیسا ہی قیچی ہے۔ اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے لوگ اس بات کو عار اور بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ دولہا ہم کے پاس جائے اور اس نے داڑھی نہ منڈا رکھی ہو۔ داڑھی منڈانا کی وجہات کی بنا پر خلاف اسلام ہے۔

(الف) اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلا: اللہ تعالیٰ نے شیطان کے متعلق فرمایا:

● یہ احادیث میں نے اپنی کتاب جاپ المرآۃ المسندۃ میں ذکر کی ہیں۔ میں ۵۲، ۵۳۔  
● ابو داؤد۔ مندادم۔ الحجۃ: ۹۲۔ یہ حدیث طحاوی نے شکل الاتمار میں نقل کی ہے۔ ۸۰، ۸۱۔  
اس کی صدحصہ ہے۔  
● صحیح مسلم: ۱/۱۵۲۔ ابو حوانۃ: ۱/۱۹۰۔ ابو داؤد: ۲/۱۹۵۔ نسائی: ۱/۷۔ ترمذی: ۳/۷۔ مندادم: ۳/۱۲۲۔ ابن عساکر: ۷/۱۳۲۔

میں کہتا ہوں: ”حدیث سے ظاہر ہے کہ نکوہ بالوں کو چالیس دن سے زیادہ چھوٹا جائز نہیں ہے۔“

”اس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ تعداد کو گمراہ کروں گا۔ انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا۔ انہیں باطل خواہشات دلاؤں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیڑ دیں اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں سو جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔“

یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ کی تخلیق کو اس کی اجازت کے بغیر تبدیل کرنا حقیقت میں شیطان کی فرمانبرداری اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اس بات میں قطعاً کوئی مشک نہیں کہ خوبصورت نظر آنے کے لیے داڑھی منڈانے والے بالکل اسی طرح رسول اکرم ﷺ کی لعنت کے مستحق ہیں جس طرح حسن کے لیے تخلیق باری تعالیٰ میں تبدیلی پر عورتیں لعنت کی مستحق ہیں۔ دونوں ایک ہی گناہ کے مرتكب ہیں۔ ”میں نے اللہ کی اجازت“ کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ زیرِ ناف بال وغیرہ اتنا بھی اس تفسیر میں داخل ہے مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس کی تو اجازت ہے بلکہ اس کو تو واجب قرار دیا گیا ہے۔  
 (ب) داڑھی منڈانا آپ ﷺ کے حکم کی واضح مخالفت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:  
 ”موچھوں کو خوب کٹو اور داڑھی کو معاف کردو۔“

یہ بات مشہور ہے کہ امر (حکم) کا صیغہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہو اور اس مقام پر قرینہ وجوب ہی کا مقاضی ہے (داڑھی بڑھانا، موچھیں کٹانا واجب ہے) کیونکہ اس (داڑھی منڈوانے) میں:

(ج) کفار کے ساتھ تشبیہ ہے نبی ﷺ نے فرمایا:

”موچھوں کو کم کرو اور داڑھی کو لٹکاو اور بھوسیوں کی مخالفت کرو۔“

ناماء: ۱۸-۱۱۹۔

• صحیح بخاری: ۱۰/۲۸۵۔ صحیح مسلم: ۱/۱۵۳۔ ابو عوانہ: ۱/۱۸۹۔ اس حدیث کے پیش نظر بعض لوگ موچھوں کو بالکل منڈوادیتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”ایسے بندے کو کوڑے مارے جائیں جو موچھیں بالکل ہی منڈوادیتے ہے اور کہا: یہ ایسی بیدعت ہے جو لوگوں میں رواج پکڑتی جا رہی ہے۔“ تہذیب: ۱/۱۵۱۔  
 صحیح البخاری: ۱۰/۲۸۵۔ صحیح مسلم۔ صحیح ابو عوانہ۔

(و) عورتوں کے ساتھ مشاہبہت: بے شک نبی ﷺ نے ان مردوں پر جو عورتوں سے اور ان عورتوں پر جو مردوں سے مشاہبہت اختیار کرتی ہیں۔ لعنت کی ہے۔ \*

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جس داڑھی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عورت سے امتیازی و صف عطا کیا اس کو منڈوانا عورت کے ساتھ بہت زیادہ مشاہبہت اختیار کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم امید کرتے ہیں کہ شاید ہماری ذکر کی گئی ولیمیں داڑھی منڈانے والوں کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسے کام سے بچائے جس کو وہ پسند نہیں کرتا اور اس سے راضی نہیں ہوتا۔

## (۲) مُنْكَنَّی کی انگوٹھی

بعض لوگ (شادی) کے موقع پر سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں اور اسے "مُنْكَنَّی کی انگوٹھی" کا نام دیتے ہیں۔ یہ فعل بھی ایسا ہے جس میں کفار کی تقلید ہے کیونکہ مسلمانوں میں یہ عادت

\* صحیح بخاری: ۲۷۲/۱۰: ۲۹۲۔ ترمذی: ۲/۲۷۲۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر سلیمان الفطرت انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے کہ مذکورہ دلائل کی مختلف چار قسمیں اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے اور اس کو چھوڑنا واجب ہے۔ این تیسرا مذکورہ نے فرمایا: "داڑھی منڈوانا حرام ہے۔" میں نے اس مسئلہ پر "شہاب رسالہ" میں قلم اٹھایا تھا۔ جو بعض محبت سنت لوگوں نے کتاب کی خلیل میں طبع کروادیا جس کا نام "اللحجه فی نظر الدین" "داڑھی اسلام کی نظر میں" ہے۔ اس میں میں نے اسے ارجمند سے بھی داڑھی منڈانے کے حرام ہونے پر دلائل لقی کیے ہیں۔

میرے بھائی! داڑھی منڈانے والوں کی کثرت سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے اگرچہ ان میں بعض لوگ علم جیسی صفت کے حامل ہی کیوں نہ ہوں۔ بعض لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں کے کہ کیا داڑھی میں اسلام ہے؟ یہ تو ایک دنیاوی مسئلہ ہے جو چاہے رکھے جو چاہے منڈادے۔

یاد رکھو۔ داڑھی امور فطرت میں سے ہے جیسا کہ امام مسلم نے روایت کیا ہے اور فطرت کبھی بھی تغیر و تبدل قبول نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ﴿فَطَرَ اللَّهُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَتَّبِعُنَّ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الَّذِينَ أَقْرَبُوا إِلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَكُنُوا يَعْلَمُونَ﴾ [آل روم: ۳۰] یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی تحقیق کو تبدیل کرنا نہیں ہے۔ یہی معموظہ دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہابت قدی عطا فرمائے۔ (لین)

عیسایوں کی طرف سے سرایت کر چکی ہے۔ \* اس فعل میں شرعی نصوص کی صاف صاف مخالفت ہے کیونکہ سونے کی انگوٹھی کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں بعض نصوص ملاحظہ فرمائیں۔

پہلی دلیل: ”آپ ﷺ نے سونے کی انگوٹھی (پینے) سے منع فرمایا ہے۔“ ②

دوسری دلیل: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ نے اسے کھینچ کر اتارا اور پھینک دیا اور فرمایا: ”تم میں سے کوئی ایک آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے حتیٰ کہ اسے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔“ جب نبی ﷺ چلے گئے تو اس آدمی کو کہا گیا۔ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لینا۔ اس نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! میں اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو رسول اللہ ﷺ نے پھینکا ہو۔ \*

تیسرا دلیل: ابی شعبہ خشن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ ﷺ اسے اس لکڑی سے (چوکے) مارنے لگے جو ان کے پاس تھی۔

\* یہ عیسایوں کی بہت قدیم عادت ہے۔ ان کے ہال شادی کے وقت ولہا سونے کی انگوٹھی دہن کے باسیں ہاتھ کے انگوٹھے کے سرے پر رکھتا اور کہتا: ”باپ کے نام سے“ پھر اسے انگشت شہادت کے سرے پر رکھتا اور کہتا: ”بیٹے کے نام سے“ پھر درمیانی انگلی کے سرے پر رکھتا اور کہتا: روح القدس (کے نام سے)۔ پھر وہ آمیں کہتا۔ اس کے بعد ساتھ والی انگلی میں اسے پہننا دیتا۔ (دہن بھی ایسے کرتی) لندن سے شائع ہونے والے رسائل Woman میں ۱۹۶۰ء کے شمارہ میں (Angela Talbot) انجلا تالبوت سے جب پوچھا گیا۔ ولہا اپنے بائیں ہاتھ کی تیسرا انگلی میں انگوٹھی کیوں پہنتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا: ”اس انگلی میں ایک رگ پائی جاتی ہے جس کا قتل ذاریک دل سے ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں: اس فعل کی بنیاد پر اپنی ہے کہ ولہا دہن کے باسیں ہاتھ کے انگوٹھے پر انگوٹھی رکھتا اور کہتا: ”باپ کے نام سے“ پھر انگشت شہادت کے سرے پر رکھتا اور کہتا: ”بیٹے کے نام سے“ پھر درمیان انگلی کے سرے پر رکھتا اور کہتا: روح القدس (جرانل) کے نام سے۔ اور پھر (تیسرا) انگلی کے سرے پر رکھتا اور دیتا۔ اور کہتا (آمیں) اسی طرح دہن بھی یہ عمل سرانجام دیتی۔

\* صحیح مخارقی: ۱۰/۲۵۹۔ صحیح مسلم: ۶/۲۶۰، ۲۵۹۔ منhadh: ۲/۲۸۸۔ نسائی: ۲/۲۸۸۔

\* صحیح مسلم: ۶/۱۳۹۔ صحیح ابن حبان: ۱/۱۵۰۔ طبرانی: ۳/۱۵۰۔ الغواہ و المشکاة: ۲/۱۸۰۔

یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ سونے کی انگوٹھی کا استعمال حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع امردی ہے کہ ”آپ ﷺ نے سونے کی انگوٹھی پینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔“ المتفقات: ۲/۳۶۔ لیکن اس کی سند میں سیف بن سکین ہے جو ضعیف ہے۔ (مگر اس کے شواہد موجود ہیں)

جب نبی ﷺ کی دوسری طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے اسے اتار کر پھینک دیا۔ آپ ﷺ نے جب انگوٹھی سے خالی ہاتھ دیکھا تو فرمایا:

”ہمارا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں تکلیف دی اور جو ڈال دی ہے۔“

چوتھی دلیل: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ ”نبی ﷺ نے صحابہ میں سے کسی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آپ ﷺ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ انہوں نے اسے اتار پھینکا اور لوہے کی انگوٹھی پھین لی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ بہت بڑی ہے یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے۔“ انہوں نے اسے بھی پھینک دیا۔ اس صحابی نے چاندی کی انگوٹھی پھین لی۔ پھر آپ ﷺ خاموش رہے۔“

پانچویں دلیل: ”جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ نہیں ریشم پہنے اور نہ ہی سوتا۔“

سنن نسائی: ۲/۲۸۸۔ محدث: ۱۹۵۔ الحسان الابی قیم: ۱/۳۰۰۔ اس سند کو روایت کرنے والے راوی ثابت (منبوط) ہیں۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں فہمان کا حفظ کر دیا ہے مگر اس روایت کی سند سمجھ ہے۔

سنداحمد: ۶۵۱۸۔ ادب المفرد لیکاری: (۱۰۲)۔ یہ حدیث سنداحمد میں ایک اور سند سے بھی مردی ہے۔ سنداحمد میں عربین خطاب سے مردی ہے۔ سن کے مؤلفین نے ایک اور سند سے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث لوہے کی انگوٹھی کے استعمال کو بھی حرام قرار دیتی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے اسے سونے کی انگوٹھی سے بھی ہرا کیا ہے۔ بعض طلاقے اس کا استعمال جائز قرار دیا ہے۔ ان کو اس حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ جب آپ ﷺ نے ایک صحابی کو حق مہر کے لیے کہا تھا ”چاؤ لوہے کی انگوٹھی ہی خلاش کرو۔“ میں نے ارادہ اغفلیں میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ حدیث لوہے کی انگوٹھی کے استعمال میں دلیل نہیں ہے۔ یہی بات حافظہ این مجرمینہ نے بھی ذکر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: اس حدیث سے بعض لوگوں نے لوہے کی انگوٹھی کے استعمال کو جائز کہا ہے۔ جبکہ اس میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے مراد تو اس انگوٹھی کی قیمت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ (فتح الباری: ۱۰/۲۶۶) بالفرض اس کو جواز کی دلیل بنا لیا بھی جائے تو (یہ قصہ) منع کا حکم اتنے سے پہلے تھا بعد میں نہیں۔ بعض لوگوں نے ابو حیان خود کی روایت کو دلیل بنا لیا ہے جس میں یعنی سے آنے والے ایک شخص کا ذکر ہے۔ اس کے ہاتھ میں سوتھ کی انگوٹھی جی۔ اس نے سلام کیا۔ آپ ﷺ نے جواب نہیں دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے ہاتھ میں تو آگ کا اٹارا ہے۔“ اس نے عرض کیا آپ کس چیز سے انگوٹھی بناتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوہے، چادری اور تابنے سے۔“ یہ حدیث سخت صیغہ ہے۔ پتہ چلا کہ چاندی کے علاوہ کوئی انگوٹھی جائز نہیں ہے۔

چھٹی دلیل: ”میری امت میں سے جو شخص اس حال میں مر اکروہ سونا پہننا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا سونا حرام کر دیں گے۔“ \*

### ۳۹: عورتوں کے لیے (حلقه دار) سونے کا استعمال

خوب جان لو کہ سونے کی انگوٹھی لئکن، ہار وغیرہ عورت کے لیے دیے ہی حرام ہے جیسے مرد کے لیے ہیں۔ بعض حدیثوں میں خاص طور پر عورتوں کا ذکر ہے۔ بعض دلائل مطلق ہیں۔ جن میں مردا اور عورت دونوں شامل ہیں۔ گزشتہ حدیث بھی اسی موقف پر دلیل ہے اس کے علاوہ کچھ احادیث ملاحظہ ہوں۔

پہلی دلیل: ”جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اپنے قریبی (بیوی) کو آگ کی انگوٹھی (یا بائی) پہنانے تو وہ اسے سونے کی انگوٹھی (یا بائی) پہنادے اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اپنے قریبی کو آگ کا ہار پہنانے تو وہ اسے سونے کا ہار پہنادے اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ اپنے قریبی کو آگ کا لئکن پہنادے تو وہ اسے سونے کا لئکن پہنادے۔ تمہارے لیے چاندی لازمی ہے اس کے ساتھ دل بہلاو۔ اس کے ساتھ دل بہلاو۔“ ②

دوسری دلیل: ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔

”بنت حمیرہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی بڑی انگوٹھی تھی۔ نبی ﷺ ان کے ہاتھ پر اس چمڑی سے مار رہے تھے جو ان کے ہاتھ میں تھی اور ساتھ ساتھ اس کو یہ کہہ رہے تھے: ”کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تیرے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھی پہنادے؟“ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور ان سے شکایت کرنے لگیں۔ ثوبان کہتے ہیں: اتنے میں نبی ﷺ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اپنے گلے سے سونے کا ہار اتارا اور کہنے لگیں: یہ مجھے بوسنے تھا۔ دیا ہے (یعنی ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ عنہ نے) نبی ﷺ نے فرمایا۔“ اے

\* مسن احمد: ۶۵۵۶۔ ۶۹۲۷۔ اس کی مندرجہ ہے۔

② ابو داؤد: ۱۹۹۔ مسن احمد: ۲۷۸۔ اس کی مندرجہ ہے۔ ترمذی نے اسے جائز میں روایت کیا ہے (۱۰۰۳)

فاطمہ! کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد ﷺ کے ہاتھ میں آگ کاہار ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے اس بات کو زور دے کر کہا۔ آپ گھر سے نکل گئے اور وہاں نہیں بیٹھے۔ فاطمہ فیضتھا نے وہ ہمارچ کر لونڈی خریدی اور اسے آزاد کر دیا۔ اس بات کا پتہ جب نبی ﷺ کو لگا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا شکر ہے کہ جس نے فاطمہ فیضتھا کو آگ سے بچالیا۔“ \*

## ۳۰: بیوی کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے

اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کاموں میں اس کا تعاون کرے۔ اور اس کے حرام کردہ امور پر بیوی کو مجبور نہ کرے۔ اس بارے میں مندرجہ ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

**پہلی حدیث:**

”تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔“ \*\*

**دوسرا حدیث:** آپ ﷺ نے خطبہ حجۃ اللوداع میں فرمایا تھا:

”خبردار اے لوگو! عورتوں کے ساتھ بھلانی کا معاملہ کرو بے شک وہ تمہارے پاس عدن (اماںت، مدگار، باندیاں) ہیں۔ تم اس سے زیادہ ان کے مالک نہیں ہو مگر یہ کہ وہ واضح فاشی کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ان

\* سن نسائی: ۲/۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، طیاری: ۱/۲۵۸، ۲۵۹۔

**ضروری نوٹ:** عورتوں کے لیے سونے کا استعمال جائز ہے کہ شخص ناصر الدین البالی کا موقف یہ ہے کہ وہ سونا جو گولائی (امکشی، لگن، دغیرہ) کی شل میں ہے وہ حرام ہے جبکہ اسکے علاوہ جائز ہے۔ جسمہ علاوہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ عورتوں کے لیے ہر چیز کا زیور جائز رکھتے ہیں لہروں نہ کہ احادیث کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے مفہوم کا بغور جائزہ لیا جائے تو وہ عورتوں کے لیے سونے کے حرام ہونے پر دلیل نہیں ہیں بلکہ اسکی اور فوائد کے نظر سے ایک انداز اپنایا گیا ہے یا پھر ان دلائل میں اس حدود کے کیفیت کی کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے جو سونے کی زکوٰۃ کا نام کرے۔ اس طبقہ میں عالم اسلام کے نامور اور جیزہ عمانے شیخ البالی کی تلفظت کی ہے۔ مثلاً ان باتیں بھی شیکھنے وغیرہ کی تکمیل کی گئی احادیث میں مذکورہ اشیاء کا استعمال کا جائزہ ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: رشم و سونے کا استعمال میری اہل کے مردوں کے لیے حرام اور عورتوں کے لیے حلال ہے (ترنی) ہم بقیہ بحث کو اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کا تعلق علمی محتوا سے ہے۔ (ترجم) \*\* امشکل طلایی: ۲/۲۷۴، ۲۷۵۔ اس سے متعلق حدیث بایہم نے حلیں اور خلیفہ بغدادی نے تاریخ نہیں ذکر کی ہے۔

کے بستر وہ میں چھوڑ دو۔ اور ان کو ملکی مار مارو۔ اگر وہ تمہاری فرمانبرداری کریں تو پھر ان پر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو۔ خبردار! تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کا حق ہے۔ تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو گھر میں داخل نہ ہونے دیں جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ اور تمہارے بستر پر تمہارے علاوہ کسی کو نہ آنے دیں اور تمہارے اوپر ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کے کھانے پینے اور لباس میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔”\*

تیسرا حدیث: آپ ﷺ نے فرمایا:  
”کوئی مومن مرد کسی مومن عورت (بیوی) سے بغض نہ رکھے۔ اگر اسے اس کی کوئی ایک بات ناپسند ہو گی تو دوسرا پسند آجائے گی۔“\*

چوتھی حدیث: آپ ﷺ نے فرمایا:  
”تمام مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور ان میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہے۔“\*

پانچویں حدیث: حضرت عائشہؓ کہتی ہیں:  
مجھے نبی ﷺ نے بلا یا جبکہ جب شی لوگ عید کے دن مسجد میں اپنے اٹھ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: ”اے حمیرا! (گورے رنگ والی) کیا تو (حشی) لوگوں (کے کھیل) کو دیکھنا پسند کرے گی؟“ میں نے کہا: ہاں۔ آپ ﷺ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر کے اپنا کندھا نیچے جھکا دیا تاکہ میں ان لوگوں کو دیکھ سکوں۔ میں نے اپنی ٹھوڑی آپ کے کندھے پر اور اپنا چہرہ آپ کے رخار مبارک سے لگاتے ہوئے آپ کے کندھے کے اوپر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے آپ کے کان اور کندھے کے اوپر سے دیکھنا شروع کیا۔ آپ ﷺ کہہ رہے تھے: ”اے بنی اسراء۔ ایک دوسرے کو پکڑو۔“ پھر آپ ﷺ کہنے لگے: ”اے

\* ترمذی: ۲۰۲/۲۔ ابن ماجہ: ۱/۵۶۹، ۵۶۷۔ مندرجہ نے اس سے متعلق حدیث روایت کی ہے۔  
\* صحیح مسلم: ۳/۱۷۸، ۱۷۹۔ سنن ترمذی: ۲۰۲/۲۔ مندرجہ نے اس سے متعلق حدیث روایت کی ہے۔

عاشرہ! ابھی تیرا دل نہیں بھرا؟“ میں کہتی تھی: نہیں۔ تاکہ میں آپ ﷺ کے (دل میں) اپنے مقام کا اندازہ کر سکوں حتیٰ کہ میرا دل بھر گیا۔

وہ کہتی ہیں: وہ لوگ اس دن کہہ رہے تھے۔ ابوالقاسم محمد ﷺ، بہت اچھے ہیں۔“

ایک روایت میں ہے:

وہ کہتی ہیں: ”جب میرا دل بھر گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تیرے لیے کافی ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر چل جاؤ۔“

ایک روایت میں ہے:

میں نے آپ ﷺ سے کہا (جلدی نہ کیجیے) آپ میری خاطر کھڑے رہے۔ پھر کہا: کیا تھے کافی ہے؟ میں نے کہا: جلدی نہ کیجیے۔ میں نے دیکھا کہ آپ تحکاوت کی وجہ سے اپنا وزن دونوں قدموں پر باری باری ڈال رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں: مجھے ان لوگوں (کا حیل) دیکھنا پسند تو نہیں تھا مگر میں چاہتی تھی کہ میرے ہاں آپ ﷺ کا مرتبہ اور نبی ﷺ کے ہاں میرا مقام آپ کی دیگر بیویوں پر واضح ہو جائے۔ حالانکہ میں نو عمر تھی۔ اے لوگو! ایک نو عمر لڑکی کی قدر کا اندازہ کرو جو کہ حیل تماشہ کو پسند کرتی ہے۔

وہ کہتی ہیں: عمر ﷺ آئے تو بچے اور لوگ اس کھیل سے اھراہ ہر ہٹ گئے۔ نبی ﷺ کو نے فرمایا: ”میں جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین کو دیکھتا ہوں کہ وہ عمر ﷺ کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔“ عاشرہ ﷺ کہتی ہیں: نبی ﷺ نے اس دن فرمایا: ”تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دین میں وسعت ہے۔“ \*

چھٹی حدیث: حضرت عاشرہ ﷺ سے ہی روایت ہے:

”جب نبی ﷺ غزوہ تبوک یا خبر سے تشریف لائے۔ آپ نے ایک طاچپ کے آگے پر دلا گا ہوا دیکھا۔ اسی دوران ہوا چلی تو پردے کا ایک کونہ عاشرہ ﷺ کے کھلونوں (گڑیا) سے ہٹ گیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا:

”اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میری (گڑیاں) ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کے درمیان ایک گھوڑا دیکھا جس کے پر کپڑے کے مختلف گلزوں سے بنے ہوئے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”یہ ان کے درمیان میں کیا ہے؟“ میں نے عرض کیا: گھوڑا۔ آپ ﷺ نے پوچھا: گھوڑے کے اوپر کیا بننا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: یہ اس کے دو پر ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”گھوڑے کے پر؟“ وہ عرض کرنے لگیں: کیا آپ نے سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے متعلق نہیں سن رکھا۔ جس کے پر تھے؟ وہ کہتی ہیں: آپ ﷺ نہیں پڑے یہاں تک کہ میں نے آپ کے نو کیلے دانت بھی دیکھے۔ \*

ساتویں حدیث: حضرت عائشہؓ فیضان فرماتی ہیں:

”وہ ایک مرتبہ سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ ابھی وہ نوعمر تھیں اور ان کا بدن بکا ساتھا اور جسم پر گوشت زیادہ نہیں تھا۔ آپ ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ آگے چلے جاؤ۔ سب لوگ آگے چلے گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (اے عائشہ!) آؤ میں تمہارے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کروں۔ میں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو میں سبقت لے گئی۔ کافی دن گزرنے کے بعد ایک رفع پھر میں آپ کے ساتھ سفر میں تھی۔ آپ ﷺ نے اپنے اصحاب ﷺ کو حکم دیا کہ تم لوگ آگے چلے جاؤ۔ پھر مجھے کہا: آؤ میں تمہارے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کروں مجھے پہلا واقعہ قطعاً یاد نہیں تھا۔ اس وقت میرا جسم گوشت چڑھنے کی وجہ سے بھاری ہو چکا تھا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں اس حال میں آپ کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتی ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تجھے (مقابلہ) کرنا پڑے گا۔“ میں نے آپ ﷺ سے دوڑ لگائی تو آپ سبقت لے گئے۔ اس کے بعد آپ ہنسنے لگے اور کہا: یہ اس (دن) کا بدله ہے۔“ \*

۱ سن ابو داؤد: ۳۰۵/۲۔ نبأی نے اسے عشرۃ النساء میں روایت کیا ہے۔ ۷۵/۱۔ اس کی سند صحیح ہے۔

۲ مندرجہ ذیل ماجہ: ۱/۳۰۲۔ ابو داؤد: ۱/۲۶۱۔ نبأی نے اسے عشرۃ النساء میں ذکر کیا ہے۔

آنھویں حدیث: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے:

”رسول اللہ ﷺ کے پاس برلن لایا جاتا تو میں اس سے پی لیتی تھی، جبکہ میں ماہواری کے ایام میں ہوتی۔ پھر (نبی ﷺ) برلن پکڑتے اور اپنے ہونٹ وہاں رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی آپ کے پاس کھجور کا برلن آتا میں اس سے کھا لیتی تھی۔ پھر آپ بھی وہیں اپنے لب مبارک رکھتے جہاں میں نے رکھے ہوتے تھے۔“ \*

نویں حدیث: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور جابر بن عمیر رضی اللہ عنہ میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہر وہ چیز جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ عبث اور بے کار اور کھلیل تماشہ ہے۔ مگر چار چیزیں۔ (۱) آدمی کا اپنی عورت سے کھلیتا۔ (ہنسی کھلیل کرنا) (۲) مالک کا گھوڑے کو سدھارنا۔ (۳) دو اہداف کے درمیان چلنا۔ (نشانہ بازی کیکھنا) (۴) اور آدمی کا تیرا کی کیکھنا۔“ \*

## ۳۱: کچھ میاں بیوی کی خدمت میں

اس کتاب کو ختم کرتے ہوئے میں میاں اور بیوی کی خدمت میں چند پند و نصائح کرنا چاہتا ہوں۔

اول: ان کو چانپیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کریں اور کتاب و سنت کے احکام کی پیروی کریں۔ اندھی تقیید لوگوں کی عادات یا اپنے مذہب کی خاطر کتاب و سنت پر کسی چیز کو ترجیح نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

\* صحیح مسلم: ۱/۱۶۹، ۲/۱۶۸۔ منhadhr: ۲/۲۷۔

\*\* تفسیر ابن حجر: ۲/۲۷۔ بیہقی: ۱/۲۸۹۔ سلسلہ احادیث الصحیح: ۳۰۹۔ الازباب: ۳/۳۳۔

”کسی مومن مرد یا عورت کے لیے جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو اسے معاملہ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔“

دوم: وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا جوان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عامد کردہ ہیں اہتمام کریں۔

مثال کے طور پر بیوی یہ مطالبه نہ کرے کہ اسے خاوند کے برابر حقوق دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو عورت پر برتری دی ہے اس کی بنیاد پر وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ہی اسے ناجائز مارے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجیح ملاحظہ ہو۔

”اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں۔ جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ ہاں۔ مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔“ ﴿۲﴾

اور فرمایا: (ترجمہ)

”مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس نیک فرمانبردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں بہ حفاظت اپنی گنبد اشت رکھنے والیاں ہیں اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو، انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ پھر اگر وہ تابعداری کریں تو ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی والا ہے۔“ ﴿۲﴾

معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا:

”اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم میں سے کسی ایک پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلا، اور جب تو

خود پہنے تو اسے بھی پہنا۔ اس کے چہرے کو برا بھلانہ کہہ اور اس کو مت مار، اور اس کو گھر میں (سزا کے لیے) اکیلا چھوڑ دے تم لوگ (بیوی کو مارنا) کیسے پسند کر لیتے ہو۔ جبکہ تم ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو (ایک جان اور دو جسم ہو) مگر وہ مار جوان پر جائز ہے۔ ❶

اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”النصاف کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دائیں طرف نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماتھوں اپنے گھروالوں اور ان میں انصاف کرتے تھے جن کے وہ ذمہ دار ہیں۔“ ❷

جب وہ دونوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بہترین بنا دیں گے۔ وہ خوش بختی اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا ترجمہ ملاحظہ ہو: ”جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔“ ❸

سوم: عورت کے لیے خصوصی طور پر واجب ہے کہ وہ خاوند کے حکم کو حتی المقدور پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں یہ بات گزر چکی ہے:

❹ ”مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔“

❺ ”مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔“

بے شمار صحیح احادیث سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے۔ ان احادیث میں خاوند

۱ ابو داؤد: ۳۳۲-۳۳۳/ حاکم: ۱۸۸، ۱۸۷/ منhadīr: ۵/ ۳۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

۲ صحیح مسلم: ۶/ ۱۷۔ اثر ہدایہ بن مبارک: ۲/ ۱۲۰۔ توحیداء بن منده: ۱/ ۹۳۔

۳ [النَّاسُ: ۲/ ۲] [البَرَّ: ۲/ ۲] [الْأَعْلَمُ: ۹/ ۲]

کی فرمانبرداری اور نافرمانی ہر دو حالتوں میں عورت کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیئے گئے ہیں۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بعض کا تذکرہ کر دیں شاید کہ موجودہ دور کی عورتیں اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَذَكَرَ فِيْ إِنَّ الدِّكْرِيْ تَفْعُلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۵﴾ [۵۵/الذریات]

”نصیحت کیجیے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔“

پہلی حدیث: ”کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ (نقلي) رکھے اور اس کا خاوند موجود ہو، مگر یہ کہ وہ اس سے اجازت حاصل کرے۔ اور نہ ہی وہ کسی کو خاوند کی اجازت کے بغیر گھر میں آنے دے۔“ \*

دوسری حدیث: ”جب خاوند بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور خاوند ناراضی کی حالت میں رات بزرگرے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت سمجھتے رہتے ہیں۔“

ایک اور روایت میں ” حتیٰ کہ وہ لوٹ آئے“ اور تیسرا روایت میں ہے کہ ”یہاں تک کہ خاوند راضی ہو جائے۔“ \*

تیسرا حدیث: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہ کر لے۔ اگر وہ اس کو طلب کرے اور وہ اونٹ کی پالان پر بیٹھی ہو پھر بھی اپنے آپ کو اس (خاوند) سے نہ رو کے۔“ \*

چوتھی حدیث: ”جب بھی دنیا میں عورت اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو اس کی جنتی بیویوں میں سے ایک حور کہتی ہے۔ اللہ تجھے بر باد کرے اس کو تکلیف نہ

\* صحیح بخاری: ۲۲۲، ۲۲۳ / ۲ / ۹۱۔ مسلم: ۲۸۵ / ۱ / ۱۰۰۔ ابو داؤد: ۳۳۳ / ۲ / ۱۵۷۔ امام زیانی نے اس کو (الکبری) میں روایت کیا ہے ۲ / ۲۳۔ مسند احمد: ۳۱۶ / ۲ / ۲۲۲۔

\* صحیح بخاری: ۲۲۱ / ۲ / ۲۲۱۔ صحیح مسلم: ۲ / ۲ / ۱۵۷۔ ابو داؤد: ۱ / ۳۳۳۔ داری: ۲ / ۲ / ۱۳۹۔ مسند احمد: ۲ / ۲ / ۲۵۵۔ ۲۲۸۔

\* یہ حدیث صحیح ہے۔ اسے اہن ماجنے روایت کیا ہے۔ ۱ / ۲۰۵۔ مسند احمد: ۲ / ۲ / ۳۸۱۔ صحیح ابن حبان۔ تر غیب لیا کم: ۳ / ۲۰۷۔ اس حدیث کو دیگر احادیث سے بھی تقویت ملتی ہے۔

دے یہ تو تیرے پاس مہمان ہے۔ عنقریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا۔” \*

پانچویں حدیث:- حسین بن محسن کہتے ہیں۔ مجھے میری بچی نے بتایا وہ کہتی ہیں: ”میں کسی ضرورت کی بنا پر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عورت! کیا تو شادی شدہ ہے؟“ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تیرا اس (خاوند) کے ساتھ سلوک کیا ہے؟“ میں نے کہا: میں نے کبھی اس کے (حق) میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ مگر یہ کہ میں عاجز ہو جاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو اپنا مقام (خاوند کے ہاں) دیکھتی رہ کر کیا ہے؟ وہی تیری جنت اور وہی تیری آگ ہے۔“ \*

چھٹی حدیث:- ”جب عورت مہنگانہ نماز پڑھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنے خاوند کی اطاعت کرے۔ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔“ \*

## عورت پر خاوند کی خدمت واجب ہے

میں کہتا ہوں کہ پچھلے عنوان کے تحت مذکورہ احادیث میں یہ بات ظاہر ہے کہ بیوی پر خاوند کی اطاعت اور حقیقی المقدور اس کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے گھر کے اندر اس کی خدمت اور اس کی اولاد کی تربیت وغیرہ شامل ہے۔ اس مسئلہ میں کچھ علمانے اختلاف بھی کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”علمانے اس بات میں اختلاف کیا ہے کہ کیا عورت پر خاوند کی خدمت واجب ہے؟“ مثلاً گھر کے قالین فرش وغیرہ کی صفائی۔ اسے کھانے اور پینے کی اشیاء پکڑانا، اس کے لیے اور اس کے غلاموں کے لیے کھانا، جانوروں

۱ ترمذی: ۲/۲۰۸۔ ابن ماجہ: ۱/۲۲۱۔ محدث شیم بن کلیب: ۵/۱۶۷۔

۲ ابن الہیثم: ۷/۳۲۷۔ ابن سعد: ۸/۲۵۹۔ امام شافعی نے اسے عشرۃ النساء میں روایت کیا ہے۔ مندرجہ: طبرانی نے اوسط میں اسے نقل کیا ہے۔ ۱/۲۰۷۔ سنن الباقی: ۷/۲۹۱۔

۳ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ الأوسط: ۲/۱۶۹۔ الترغیب: ۳/۷۳۔ مندرجہ: ۱۲۶۱۔ الحکیمة: ۴/۳۰۷۔

کے لیے چارہ وغیرہ کا اہتمام اور گندم وغیرہ سے آتا ہے۔“

بعض علمانے کہا: اس پر خدمت واجب نہیں ہے۔ یہ قول انتہائی کمزور ہے۔ یہ اس قول کی طرح ہے کہ اس پر خاوند کے ساتھ زندگی گزارنا اور اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا واجب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ اس کے ساتھ بہترین زندگی نہیں ہے۔ اگر سفر یا مگر کا ساتھ دوستی مصلحت کا خیال نہ رکھے تو یہ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا نہیں ہے۔

کچھ علمانے کہا: اور یہی قول صحیح ہے کہ ”اس پر خاوند کی خدمت واجب ہے کیونکہ

قرآن مجید میں خاوند کو سردار کہا گیا ہے۔

اور وہ (بیوی) سنت رسول اللہ ﷺ کی بنیاد پر خاوند کے ہاں باندی کی حیثیت سے ہے (جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے) خدمت گزار اور غلام، کام خدمت کرنا ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔

بعض علمانے کہا: اس پر بلکل چھلکی خدمت واجب ہے۔ بعض نے کہا کہ خدمت کے تحت جو کچھ بھی آتا ہے وہ اس پر واجب ہے اور یہی بات حق ہے۔

یہ خدمت حالات کے اعتبار سے ہوگی۔ مثلاً جنگلی لوگوں کی خدمت بستی میں رہنے والوں کی طرح نہیں ہے۔ قوت والی خدمت کمزور کی طرح نہیں ہے۔“<sup>1</sup>

میں کہتا ہوں کہ ان شاء اللہ صحیح بات یہ ہے کہ عورت پر گھریلو خدمت واجب ہے۔ یہی قول امام مالک کا اور اصحاب مسیح ﷺ کا ہے <sup>2</sup> حتابہ میں سے جوز جانی کا یہی خیال ہے۔ <sup>3</sup> سلف صالحین اور ان کے بعد آنے والے جمہور علماء بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ <sup>4</sup> جس نے یہ کہا کہ عورت پر خاوند کی خدمت واجب نہیں اس کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں: ”نکاح عورت سے فائدہ اٹھانے کا سبب ہے خدمت کا نہیں۔“ ان کی بات غلط ہے۔ کیونکہ عورت بھی خاوند سے اسی طرح کا فائدہ حاصل کرتی ہے جس

<sup>1</sup> فتاویٰ ابن تیمیہ: ۲/۲۲۵-۲۲۷۔ <sup>2</sup> دیکھیے فتح الباری: ۹/۳۸۔

<sup>3</sup> الاغتیارات: ص: ۳۶۔ <sup>4</sup> الزوار: ۳/۱۴۵۔

طرح وہ کرتا ہے۔ اس لحاظ سے تو وہ دونوں برابر ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی خاوند پر یہوی کے لیے ایک چیز واجب قرار دی ہے۔ اور وہ ہے اس کا کھانا پینا، اور ننان و نفقہ وغیرہ۔ انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ خاوند کے لیے اس کے بال مقابل کوئی زائد چیز ہونی چاہیے تھی۔ غور کریں تو وہ خدمت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی پر مزید یہ کہ وہ اس پر نص قرآنی کی روشنی میں حاکم ہے۔ اگر عورت خدمت کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی تو مجبوراً خاوند کو گھر یلو امور میں اس کی خدمت کرنا ہوگی۔ اس صورت حال میں وہ حاکم ہوگی۔ اور یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اللٹ معاملہ ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس پر خدمت واجب ہے تاکہ (حکم الہی) کی مراد پوری ہو۔

یہ بھی ہے کہ مرد کا خدمت کی ذمہ داری سنبھال لینا و مقتضاد امور کو جنم دیتا ہے۔ وہ گھر یلو کاموں میں مشغول ہوگا اور حصول رزق اور وسائل تلاش کرنے کے لیے فارغ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیگر کئی مصلحتیں فوت ہو جائیں گی۔

اور یہ کہ عورت گھر میں تمام کام کا ج سے کٹ کر بیٹھ جائے گی۔ جس کا اہتمام اس پر واجب تھا۔ اس سے میاں اور بیوی کے حقوق و فرائض میں ایسا فساد اور بگاڑ پیدا ہو گا جو شریعت کے عطا کردہ سارے حقوق میں خلل کا باعث ہو گا۔ اس طرح تو عورت کو مرد پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لیے رسول اللہ ﷺ نے اپنی بیٹی فاطمہؓ کی شکایت کا ازالہ نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔

”وَنِیْ کریم مَلِیْکِ الْجَمَلِ کے پاس آئیں۔ اور پچھی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں پر پڑ جانے والے چھالوں کی شکایت کی کیونکہ ان کو پتہ چلا تھا کہ کچھ غلام آپ مَلِیْکِ الْجَمَلِ کے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے آپ مَلِیْکِ الْجَمَلِ کو گھر میں نہ پایا تو اس بات کا تذکرہ عائشہؓ سے کیا۔ جب نبی مَلِیْکِ الْجَمَلِ آئے تو عائشہؓ نے آپ مَلِیْکِ الْجَمَلِ کو خبر دی۔ حضرت علیؓ کہتے ہیں:

آپ مَلِیْکِ الْجَمَلِ ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستروں پر دراز ہو چکے تھے۔ ہم اٹھنے لگے تو آپ مَلِیْکِ الْجَمَلِ نے فرمایا: اپنی اپنی جگہ پر ہی رہو۔ آپ آئے اور میرے اور (فاطمہؓ) کے درمیان بینھ گئے حتیٰ کہ میں

نے آپ کے پاؤں کی مٹھنڈ ک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں تم کو اس چیز سے بہتر کی خبر نہ دوں جس کا تم نے سوال کیا ہے؟ جب تم دونوں اپنے سونے کی جگہ پر دراز ہو یا تم اپنے بستر کی طرف آؤ تو تینتیس (۳۳) مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس (۳۳) مرتبہ الحمد للہ اور چوتیس (۴۴) دفعہ اللہ اکبر کہو۔ یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: اس کے بعد میں نے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا صفين کی رات میں بھی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا: صفين کی رات میں بھی۔“ ②

اس حدیث پر غور کریں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں کہا کہ اس (فاطرہ) پر خدمت واجب نہیں ہے بلکہ تجوہ پر ہے۔ یہ بات مسلم ہے کہ آپ ﷺ شرعی حکم سناتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جس طرح کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیا ہے۔ جو آدمی اس مسئلہ میں مزید تفصیل کا طلب گار ہے وہ ابن قیم کی کتاب زاد المعاد کی جلد نمبر ۲۷ صفحہ نمبر ۴۶۴ کا مطالعہ کرے۔

گزشتہ بحث کہ ”عورت پر مرد کی خدمت واجب ہے“ اس سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ خاوند اس خدمت میں شریک نہیں ہو سکتا اگر اسے فراغت اور فرصت مل تو اپنی بیوی کا تعاون کرنا مستحب ہے۔ اسی لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

”آپ ﷺ بھی اپنے گھروں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ یعنی ان کی خدمت وغیرہ کرتے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ نماز کے لیے نکل جاتے۔“ ③

نبی ﷺ بھی ایک بشر (انسان) تھے آپ ﷺ اپنے کپڑوں کو پیوند لگا لیتے۔

بکری کا دودھ دوھ لیتے اور اپنی مد خود کر لیتے۔

ہم اپنی کتاب کو انہی کلمات پر ختم کرتے ہیں۔

**سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ  
أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.**

① صحیح بخاری: ۹/۳۱۸، ۳۱۷۔ ② صحیح بخاری: ۲/۱۲۲، ۹-۱۲۳۔ ترمذی: ۳/۳۱۲۔ این حدیث: ۱/۳۶۶۔

③ مسلمہ احادیث الحصیر: ۷۰۔